


# ریاضی

امدادی مواد

برائے

جماعت دوم، سوم

آئی ایم ڈی سی پرائمری ایجوکیشن ڈائریکٹوریٹ  
حیات آباد پشاور



حل کریں۔

$$\begin{array}{r} 1 \\ +5 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 2 \\ +7 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 4 \\ +2 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 3 \\ +2 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 3 \\ +7 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 4 \\ +3 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 3 \\ +4 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 5 \\ +2 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 2 \\ +9 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 2 \\ +2 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 4 \\ +9 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 5 \\ +3 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 4 \\ +4 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 4 \\ +8 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 5 \\ +4 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 3 \\ +5 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 2 \\ +8 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 5 \\ +8 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 6 \\ +1 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 5 \\ +7 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 5 \\ +9 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 3 \\ +8 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 4 \\ +5 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 2 \\ +4 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 5 \\ +6 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 3 \\ +9 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 4 \\ +7 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 5 \\ +5 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 3 \\ +6 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 4 \\ +6 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 6 \\ +2 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 6 \\ +4 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 7 \\ +2 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 9 \\ +6 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 6 \\ +3 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 9 \\ +8 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 9 \\ +9 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 6 \\ +4 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 6 \\ +3 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 7 \\ +6 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 7 \\ +4 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 6 \\ +5 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 9 \\ +7 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 6 \\ +6 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 7 \\ +5 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 6 \\ +7 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 7 \\ +8 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 6 \\ +9 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 7 \\ +9 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 6 \\ +8 \\ \hline \end{array}$$

کارڈ نمبر: 1

جماعت دوم

جوابات

$$\begin{array}{r} 1 \\ +5 \\ \hline 6 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 2 \\ +7 \\ \hline 9 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 4 \\ +2 \\ \hline 6 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 3 \\ +2 \\ \hline 5 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 3 \\ +7 \\ \hline 10 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 4 \\ +3 \\ \hline 7 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 3 \\ +4 \\ \hline 7 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 5 \\ +2 \\ \hline 7 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 2 \\ +9 \\ \hline 11 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 2 \\ +2 \\ \hline 4 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 4 \\ +9 \\ \hline 13 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 5 \\ +3 \\ \hline 8 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 4 \\ +4 \\ \hline 8 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 4 \\ +8 \\ \hline 12 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 5 \\ +4 \\ \hline 9 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 3 \\ +5 \\ \hline 8 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 2 \\ +8 \\ \hline 10 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 5 \\ +8 \\ \hline 13 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 6 \\ +1 \\ \hline 7 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 5 \\ +7 \\ \hline 12 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 5 \\ +6 \\ \hline 11 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 3 \\ +8 \\ \hline 11 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 4 \\ +5 \\ \hline 9 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 2 \\ +4 \\ \hline 6 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 5 \\ +6 \\ \hline 11 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 3 \\ +9 \\ \hline 12 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 4 \\ +7 \\ \hline 11 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 5 \\ +5 \\ \hline 10 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 3 \\ +6 \\ \hline 9 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 4 \\ +6 \\ \hline 10 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 6 \\ +2 \\ \hline 8 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 6 \\ +4 \\ \hline 10 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 7 \\ +2 \\ \hline 9 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 9 \\ +6 \\ \hline 15 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 6 \\ +3 \\ \hline 9 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 9 \\ +8 \\ \hline 17 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 9 \\ +9 \\ \hline 18 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 6 \\ +4 \\ \hline 10 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 7 \\ +3 \\ \hline 10 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 7 \\ +6 \\ \hline 13 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 7 \\ +4 \\ \hline 11 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 6 \\ +5 \\ \hline 11 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 9 \\ +7 \\ \hline 16 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 6 \\ +6 \\ \hline 12 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 7 \\ +5 \\ \hline 12 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 6 \\ +7 \\ \hline 13 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 7 \\ +8 \\ \hline 15 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 6 \\ +9 \\ \hline 15 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 7 \\ +9 \\ \hline 16 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 6 \\ +8 \\ \hline 14 \end{array}$$

حل کریں۔

$\begin{array}{r} 6 \\ + 4 \\ \hline 3 \end{array}$	$\begin{array}{r} 7 \\ + 7 \\ \hline 6 \end{array}$	$\begin{array}{r} 4 \\ + 4 \\ \hline 5 \end{array}$	$\begin{array}{r} 6 \\ + 8 \\ \hline 4 \end{array}$	$\begin{array}{r} 9 \\ + 9 \\ \hline 6 \end{array}$
$\begin{array}{r} 4 \\ + 9 \\ \hline 8 \end{array}$	$\begin{array}{r} 7 \\ + 5 \\ \hline 6 \end{array}$	$\begin{array}{r} 8 \\ + 4 \\ \hline 3 \end{array}$	$\begin{array}{r} 1 \\ + 2 \\ \hline 3 \end{array}$	$\begin{array}{r} 2 \\ + 4 \\ \hline 7 \end{array}$
$\begin{array}{r} 8 \\ + 8 \\ \hline 8 \end{array}$	$\begin{array}{r} 7 \\ + 4 \\ \hline 6 \end{array}$	$\begin{array}{r} 8 \\ + 5 \\ \hline 3 \end{array}$	$\begin{array}{r} 9 \\ + 4 \\ \hline 2 \end{array}$	$\begin{array}{r} 8 \\ + 4 \\ \hline 2 \end{array}$
$\begin{array}{r} 7 \\ + 6 \\ \hline 3 \end{array}$	$\begin{array}{r} 4 \\ + 3 \\ \hline 6 \end{array}$	$\begin{array}{r} 7 \\ + 8 \\ \hline 5 \end{array}$	$\begin{array}{r} 9 \\ + 4 \\ \hline 3 \end{array}$	$\begin{array}{r} 4 \\ + 4 \\ \hline 9 \end{array}$
$\begin{array}{r} 7 \\ + 4 \\ \hline 4 \end{array}$	$\begin{array}{r} 6 \\ + 2 \\ \hline 4 \end{array}$	$\begin{array}{r} 8 \\ + 4 \\ \hline 5 \end{array}$	$\begin{array}{r} 5 \\ + 6 \\ \hline 7 \end{array}$	$\begin{array}{r} 1 \\ + 9 \\ \hline 8 \end{array}$
$\begin{array}{r} 4 \\ + 8 \\ \hline 6 \end{array}$	$\begin{array}{r} 6 \\ + 7 \\ \hline 4 \end{array}$	$\begin{array}{r} 9 \\ + 8 \\ \hline 3 \end{array}$	$\begin{array}{r} 6 \\ + 8 \\ \hline 3 \end{array}$	$\begin{array}{r} 4 \\ + 6 \\ \hline 9 \end{array}$
$\begin{array}{r} 9 \\ + 8 \\ \hline 8 \end{array}$	$\begin{array}{r} 7 \\ + 7 \\ \hline 7 \end{array}$	$\begin{array}{r} 8 \\ + 6 \\ \hline 9 \end{array}$	$\begin{array}{r} 6 \\ + 7 \\ \hline 5 \end{array}$	$\begin{array}{r} 9 \\ + 9 \\ \hline 9 \end{array}$
$\begin{array}{r} 8 \\ + 8 \\ \hline 6 \end{array}$	$\begin{array}{r} 4 \\ + 4 \\ \hline 4 \end{array}$	$\begin{array}{r} 3 \\ + 9 \\ \hline 9 \end{array}$	$\begin{array}{r} 8 \\ + 4 \\ \hline 8 \end{array}$	$\begin{array}{r} 7 \\ + 6 \\ \hline 9 \end{array}$
$\begin{array}{r} 4 \\ + 9 \\ \hline 8 \end{array}$	$\begin{array}{r} 3 \\ + 8 \\ \hline 9 \end{array}$	$\begin{array}{r} 7 \\ + 9 \\ \hline 3 \end{array}$	$\begin{array}{r} 4 \\ + 6 \\ \hline 8 \end{array}$	$\begin{array}{r} 9 \\ + 4 \\ \hline 2 \end{array}$
$\begin{array}{r} 8 \\ + 8 \\ \hline 8 \end{array}$	$\begin{array}{r} 7 \\ + 6 \\ \hline 3 \end{array}$	$\begin{array}{r} 6 \\ + 6 \\ \hline 6 \end{array}$	$\begin{array}{r} 5 \\ + 5 \\ \hline 9 \end{array}$	$\begin{array}{r} 8 \\ + 7 \\ \hline 4 \end{array}$

جماعت دوم

جوابات

کارڈ نمبر: 2

$$\begin{array}{r} 6 \\ 4 \\ +3 \\ \hline (13) \end{array}$$
$$\begin{array}{r} 4 \\ 8 \\ +9 \\ \hline (21) \end{array}$$
$$\begin{array}{r} 8 \\ 8 \\ +8 \\ \hline (24) \end{array}$$
$$\begin{array}{r} 7 \\ 6 \\ +3 \\ \hline (16) \end{array}$$
$$\begin{array}{r} 7 \\ 9 \\ +1 \\ \hline (20) \end{array}$$
$$\begin{array}{r} 4 \\ 8 \\ +6 \\ \hline (18) \end{array}$$
$$\begin{array}{r} 9 \\ 8 \\ +8 \\ \hline (25) \end{array}$$
$$\begin{array}{r} 8 \\ 9 \\ +6 \\ \hline (23) \end{array}$$
$$\begin{array}{r} 4 \\ 9 \\ +8 \\ \hline (21) \end{array}$$
$$\begin{array}{r} 8 \\ 4 \\ +8 \\ \hline (20) \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 7 \\ 7 \\ +6 \\ \hline (20) \end{array}$$
$$\begin{array}{r} 7 \\ 6 \\ +5 \\ \hline (18) \end{array}$$
$$\begin{array}{r} 7 \\ 6 \\ +4 \\ \hline (17) \end{array}$$
$$\begin{array}{r} 4 \\ 5 \\ +6 \\ \hline (15) \end{array}$$
$$\begin{array}{r} 6 \\ 2 \\ +4 \\ \hline (12) \end{array}$$
$$\begin{array}{r} 6 \\ 7 \\ +4 \\ \hline (17) \end{array}$$
$$\begin{array}{r} 7 \\ 7 \\ +7 \\ \hline (21) \end{array}$$
$$\begin{array}{r} 4 \\ 4 \\ +4 \\ \hline (12) \end{array}$$
$$\begin{array}{r} 3 \\ 8 \\ +9 \\ \hline (20) \end{array}$$
$$\begin{array}{r} 7 \\ 6 \\ +3 \\ \hline (16) \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 4 \\ 4 \\ +5 \\ \hline (13) \end{array}$$
$$\begin{array}{r} 8 \\ 4 \\ +3 \\ \hline (15) \end{array}$$
$$\begin{array}{r} 8 \\ 5 \\ +3 \\ \hline (16) \end{array}$$
$$\begin{array}{r} 7 \\ 8 \\ +5 \\ \hline (20) \end{array}$$
$$\begin{array}{r} 8 \\ 4 \\ +5 \\ \hline (17) \end{array}$$
$$\begin{array}{r} 9 \\ 8 \\ +3 \\ \hline (20) \end{array}$$
$$\begin{array}{r} 8 \\ 6 \\ +9 \\ \hline (23) \end{array}$$
$$\begin{array}{r} 9 \\ 9 \\ +9 \\ \hline (21) \end{array}$$
$$\begin{array}{r} 7 \\ 9 \\ +1 \\ \hline (19) \end{array}$$
$$\begin{array}{r} 6 \\ 6 \\ +6 \\ \hline (19) \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 6 \\ 8 \\ +4 \\ \hline (18) \end{array}$$
$$\begin{array}{r} 1 \\ 2 \\ +3 \\ \hline (6) \end{array}$$
$$\begin{array}{r} 9 \\ 4 \\ +2 \\ \hline (15) \end{array}$$
$$\begin{array}{r} 9 \\ 4 \\ +3 \\ \hline (16) \end{array}$$
$$\begin{array}{r} 5 \\ 6 \\ +7 \\ \hline (18) \end{array}$$
$$\begin{array}{r} 6 \\ 8 \\ +3 \\ \hline (17) \end{array}$$
$$\begin{array}{r} 6 \\ 7 \\ +5 \\ \hline (18) \end{array}$$
$$\begin{array}{r} 8 \\ 4 \\ +8 \\ \hline (20) \end{array}$$
$$\begin{array}{r} 4 \\ 6 \\ +8 \\ \hline (18) \end{array}$$
$$\begin{array}{r} 5 \\ 5 \\ +9 \\ \hline (19) \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 9 \\ 9 \\ +6 \\ \hline (24) \end{array}$$
$$\begin{array}{r} 2 \\ 4 \\ +7 \\ \hline (13) \end{array}$$
$$\begin{array}{r} 8 \\ 4 \\ +2 \\ \hline (14) \end{array}$$
$$\begin{array}{r} 4 \\ 4 \\ +9 \\ \hline (17) \end{array}$$
$$\begin{array}{r} 1 \\ 9 \\ +8 \\ \hline (19) \end{array}$$
$$\begin{array}{r} 4 \\ 6 \\ +9 \\ \hline (19) \end{array}$$
$$\begin{array}{r} 9 \\ 9 \\ +9 \\ \hline (27) \end{array}$$
$$\begin{array}{r} 7 \\ 6 \\ +9 \\ \hline (22) \end{array}$$
$$\begin{array}{r} 9 \\ 4 \\ +2 \\ \hline (15) \end{array}$$
$$\begin{array}{r} 8 \\ 7 \\ +4 \\ \hline (19) \end{array}$$

حل کریں۔

$\begin{array}{r} 41 \\ + 43 \\ \hline 84 \end{array}$	$\begin{array}{r} 32 \\ + 41 \\ \hline 73 \end{array}$	$\begin{array}{r} 78 \\ + 10 \\ \hline 88 \end{array}$	$\begin{array}{r} 62 \\ + 3 \\ \hline 65 \end{array}$	$\begin{array}{r} 42 \\ + 82 \\ \hline 124 \end{array}$
$\begin{array}{r} 41 \\ + 11 \\ \hline 52 \end{array}$	$\begin{array}{r} 33 \\ + 4 \\ \hline 37 \end{array}$	$\begin{array}{r} 52 \\ + 31 \\ \hline 83 \end{array}$	$\begin{array}{r} 63 \\ + 71 \\ \hline 134 \end{array}$	$\begin{array}{r} 70 \\ + 14 \\ \hline 84 \end{array}$
$\begin{array}{r} 16 \\ + 70 \\ \hline 86 \end{array}$	$\begin{array}{r} 62 \\ + 21 \\ \hline 83 \end{array}$	$\begin{array}{r} 53 \\ + 15 \\ \hline 68 \end{array}$	$\begin{array}{r} 21 \\ + 34 \\ \hline 55 \end{array}$	$\begin{array}{r} 71 \\ + 42 \\ \hline 113 \end{array}$
$\begin{array}{r} 22 \\ + 21 \\ \hline 43 \end{array}$	$\begin{array}{r} 6 \\ + 41 \\ \hline 47 \end{array}$	$\begin{array}{r} 51 \\ + 7 \\ \hline 58 \end{array}$	$\begin{array}{r} 46 \\ + 31 \\ \hline 77 \end{array}$	$\begin{array}{r} 84 \\ + 1 \\ \hline 85 \end{array}$
$\begin{array}{r} 48 \\ + 81 \\ \hline 129 \end{array}$	$\begin{array}{r} 61 \\ + 33 \\ \hline 94 \end{array}$	$\begin{array}{r} 46 \\ + 31 \\ \hline 77 \end{array}$	$\begin{array}{r} 23 \\ + 41 \\ \hline 64 \end{array}$	$\begin{array}{r} 32 \\ + 81 \\ \hline 113 \end{array}$
$\begin{array}{r} 46 \\ + 32 \\ \hline 78 \end{array}$	$\begin{array}{r} 33 \\ + 41 \\ \hline 74 \end{array}$	$\begin{array}{r} 76 \\ + 41 \\ \hline 117 \end{array}$	$\begin{array}{r} 91 \\ + 92 \\ \hline 183 \end{array}$	$\begin{array}{r} 84 \\ + 72 \\ \hline 156 \end{array}$
$\begin{array}{r} 61 \\ + 62 \\ \hline 123 \end{array}$	$\begin{array}{r} 41 \\ + 42 \\ \hline 83 \end{array}$	$\begin{array}{r} 31 \\ + 53 \\ \hline 84 \end{array}$	$\begin{array}{r} 91 \\ + 98 \\ \hline 189 \end{array}$	$\begin{array}{r} 83 \\ + 91 \\ \hline 174 \end{array}$
$\begin{array}{r} 21 \\ + 36 \\ \hline 57 \end{array}$	$\begin{array}{r} 46 \\ + 31 \\ \hline 77 \end{array}$	$\begin{array}{r} 46 \\ + 32 \\ \hline 78 \end{array}$	$\begin{array}{r} 48 \\ + 31 \\ \hline 79 \end{array}$	$\begin{array}{r} 31 \\ + 43 \\ \hline 74 \end{array}$
$\begin{array}{r} 26 \\ + 31 \\ \hline 57 \end{array}$	$\begin{array}{r} 46 \\ + 32 \\ \hline 78 \end{array}$	$\begin{array}{r} 30 \\ + 46 \\ \hline 76 \end{array}$	$\begin{array}{r} 88 \\ + 41 \\ \hline 129 \end{array}$	$\begin{array}{r} 84 \\ + 32 \\ \hline 116 \end{array}$
$\begin{array}{r} 46 \\ + 31 \\ \hline 77 \end{array}$	$\begin{array}{r} 36 \\ + 41 \\ \hline 77 \end{array}$	$\begin{array}{r} 84 \\ + 73 \\ \hline 157 \end{array}$	$\begin{array}{r} 54 \\ + 55 \\ \hline 109 \end{array}$	$\begin{array}{r} 62 \\ + 41 \\ \hline 103 \end{array}$

کارڈ نمبر: 3

جماعت دوم

جوابات

$$\begin{array}{r} 41 \\ 43 \\ + 3 \\ \hline 87 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 41 \\ 6 \\ + 11 \\ \hline 58 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 16 \\ 3 \\ + 70 \\ \hline 89 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 22 \\ 21 \\ + 6 \\ \hline 49 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 48 \\ 81 \\ + 20 \\ \hline 149 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 46 \\ 32 \\ + 90 \\ \hline 168 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 61 \\ 62 \\ + 76 \\ \hline 199 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 21 \\ 36 \\ + 82 \\ \hline 139 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 26 \\ 31 \\ + 62 \\ \hline 119 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 46 \\ 31 \\ + 71 \\ \hline 148 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 32 \\ 41 \\ + 6 \\ \hline 79 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 33 \\ 4 \\ + 52 \\ \hline 89 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 62 \\ 4 \\ + 21 \\ \hline 87 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 6 \\ 41 \\ + 2 \\ \hline 49 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 61 \\ 33 \\ + 44 \\ \hline 138 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 33 \\ 41 \\ + 82 \\ \hline 156 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 41 \\ 42 \\ + 16 \\ \hline 99 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 46 \\ 31 \\ + 92 \\ \hline 169 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 46 \\ 32 \\ + 91 \\ \hline 169 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 36 \\ 41 \\ + 72 \\ \hline 149 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 78 \\ 10 \\ + 1 \\ \hline 89 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 52 \\ 31 \\ + 5 \\ \hline 88 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 53 \\ 1 \\ + 5 \\ \hline 59 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 51 \\ 7 \\ + 30 \\ \hline 88 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 46 \\ 31 \\ + 41 \\ \hline 118 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 76 \\ 41 \\ + 31 \\ \hline 148 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 31 \\ 53 \\ + 82 \\ \hline 166 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 46 \\ 32 \\ + 80 \\ \hline 158 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 30 \\ 46 \\ + 91 \\ \hline 167 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 84 \\ 73 \\ + 71 \\ \hline 228 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 62 \\ 3 \\ + 73 \\ \hline 138 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 63 \\ 4 \\ + 71 \\ \hline 138 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 4 \\ 21 \\ + 34 \\ \hline 59 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 46 \\ 31 \\ + 2 \\ \hline 79 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 23 \\ 41 \\ + 74 \\ \hline 138 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 91 \\ 92 \\ + 93 \\ \hline 276 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 91 \\ 98 \\ + 40 \\ \hline 229 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 48 \\ 31 \\ + 60 \\ \hline 139 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 88 \\ 41 \\ + 90 \\ \hline 219 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 54 \\ 55 \\ + 40 \\ \hline 149 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 42 \\ 82 \\ + 4 \\ \hline 128 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 70 \\ 14 \\ + 3 \\ \hline 87 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 71 \\ 5 \\ + 42 \\ \hline 118 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 84 \\ 1 \\ + 72 \\ \hline 157 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 32 \\ 81 \\ + 83 \\ \hline 196 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 84 \\ 72 \\ + 33 \\ \hline 189 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 83 \\ 91 \\ + 44 \\ \hline 218 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 31 \\ 43 \\ + 85 \\ \hline 159 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 84 \\ 32 \\ + 71 \\ \hline 187 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 62 \\ 41 \\ + 91 \\ \hline 196 \end{array}$$



حل کریں۔

$\begin{array}{r} + 4 \\ \hline 8 \end{array}$	$\begin{array}{r} + 7 \\ \hline 6 \end{array}$	$\begin{array}{r} + 4 \\ \hline 9 \end{array}$	$\begin{array}{r} + 8 \\ \hline 8 \end{array}$	$\begin{array}{r} + 7 \\ \hline 9 \end{array}$
$\begin{array}{r} + 9 \\ \hline 6 \end{array}$	$\begin{array}{r} + 8 \\ \hline 3 \end{array}$	$\begin{array}{r} + 2 \\ \hline 9 \end{array}$	$\begin{array}{r} + 8 \\ \hline 7 \end{array}$	$\begin{array}{r} + 7 \\ \hline 7 \end{array}$
$\begin{array}{r} + 4 \\ \hline 6 \\ \hline 3 \end{array}$	$\begin{array}{r} + 7 \\ \hline 8 \\ \hline 5 \end{array}$	$\begin{array}{r} + 6 \\ \hline 4 \\ \hline 3 \end{array}$	$\begin{array}{r} + 9 \\ \hline 6 \\ \hline 4 \end{array}$	$\begin{array}{r} + 8 \\ \hline 4 \\ \hline 2 \end{array}$
$\begin{array}{r} + 7 \\ \hline 6 \\ \hline 6 \end{array}$	$\begin{array}{r} + 8 \\ \hline 5 \\ \hline 9 \end{array}$	$\begin{array}{r} + 3 \\ \hline 6 \\ \hline 8 \end{array}$	$\begin{array}{r} + 7 \\ \hline 9 \\ \hline 6 \end{array}$	$\begin{array}{r} + 4 \\ \hline 3 \\ \hline 8 \end{array}$
$\begin{array}{r} + 41 \\ \hline 2 \\ \hline 6 \end{array}$	$\begin{array}{r} + 31 \\ \hline 4 \\ \hline 3 \end{array}$	$\begin{array}{r} + 63 \\ \hline 62 \\ \hline 4 \end{array}$	$\begin{array}{r} + 76 \\ \hline 82 \\ \hline 1 \end{array}$	$\begin{array}{r} + 43 \\ \hline 5 \\ \hline 90 \end{array}$
$\begin{array}{r} + 76 \\ \hline 3 \\ \hline 80 \end{array}$	$\begin{array}{r} + 3 \\ \hline 94 \\ \hline 82 \end{array}$	$\begin{array}{r} + 48 \\ \hline 71 \\ \hline 10 \end{array}$	$\begin{array}{r} + 63 \\ \hline 4 \\ \hline 71 \end{array}$	$\begin{array}{r} + 93 \\ \hline 91 \\ \hline 4 \end{array}$
$\begin{array}{r} + 3 \\ \hline 82 \\ \hline 73 \end{array}$	$\begin{array}{r} + 73 \\ \hline 84 \\ \hline 91 \end{array}$	$\begin{array}{r} + 38 \\ \hline 40 \\ \hline 21 \end{array}$	$\begin{array}{r} + 43 \\ \hline 82 \\ \hline 14 \end{array}$	$\begin{array}{r} + 91 \\ \hline 42 \\ \hline 33 \end{array}$
$\begin{array}{r} + 483 \\ \hline 14 \\ \hline 2 \end{array}$	$\begin{array}{r} + 36 \\ \hline 702 \\ \hline 41 \end{array}$	$\begin{array}{r} + 461 \\ \hline 306 \\ \hline 21 \end{array}$	$\begin{array}{r} + 906 \\ \hline 31 \\ \hline 2 \end{array}$	$\begin{array}{r} + 153 \\ \hline 5 \\ \hline 601 \end{array}$
$\begin{array}{r} + 523 \\ \hline 431 \\ \hline 24 \end{array}$	$\begin{array}{r} + 703 \\ \hline 242 \\ \hline 31 \end{array}$	$\begin{array}{r} + 816 \\ \hline 1 \\ \hline 41 \end{array}$	$\begin{array}{r} + 903 \\ \hline 23 \\ \hline 41 \end{array}$	$\begin{array}{r} + 326 \\ \hline 12 \\ \hline 421 \end{array}$
$\begin{array}{r} + 903 \\ \hline 41 \\ \hline 34 \end{array}$	$\begin{array}{r} + 325 \\ \hline 150 \\ \hline 402 \end{array}$	$\begin{array}{r} + 244 \\ \hline 321 \\ \hline 212 \end{array}$	$\begin{array}{r} + 606 \\ \hline 241 \\ \hline 102 \end{array}$	$\begin{array}{r} + 114 \\ \hline 451 \\ \hline 212 \end{array}$

کارڈ نمبر: 4

جماعت دوم

## جوابات

$\begin{array}{r} 4 \\ +8 \\ \hline 12 \end{array}$	$\begin{array}{r} 7 \\ +6 \\ \hline 13 \end{array}$	$\begin{array}{r} 4 \\ +9 \\ \hline 13 \end{array}$	$\begin{array}{r} 8 \\ +8 \\ \hline 16 \end{array}$	$\begin{array}{r} 7 \\ +9 \\ \hline 16 \end{array}$
$\begin{array}{r} 9 \\ +6 \\ \hline 15 \end{array}$	$\begin{array}{r} 8 \\ +3 \\ \hline 11 \end{array}$	$\begin{array}{r} 2 \\ +9 \\ \hline 11 \end{array}$	$\begin{array}{r} 8 \\ +7 \\ \hline 15 \end{array}$	$\begin{array}{r} 7 \\ +7 \\ \hline 14 \end{array}$
$\begin{array}{r} 4 \\ 6 \\ +3 \\ \hline 13 \end{array}$	$\begin{array}{r} 7 \\ 8 \\ +5 \\ \hline 20 \end{array}$	$\begin{array}{r} 8 \\ 4 \\ +3 \\ \hline 13 \end{array}$	$\begin{array}{r} 9 \\ 6 \\ +4 \\ \hline 19 \end{array}$	$\begin{array}{r} 8 \\ 4 \\ +5 \\ \hline 17 \end{array}$
$\begin{array}{r} 7 \\ 6 \\ +6 \\ \hline 19 \end{array}$	$\begin{array}{r} 8 \\ 4 \\ +9 \\ \hline 21 \end{array}$	$\begin{array}{r} 3 \\ 6 \\ +8 \\ \hline 17 \end{array}$	$\begin{array}{r} 7 \\ 9 \\ +6 \\ \hline 22 \end{array}$	$\begin{array}{r} 4 \\ 3 \\ +8 \\ \hline 15 \end{array}$
$\begin{array}{r} 41 \\ 2 \\ +6 \\ \hline 49 \end{array}$	$\begin{array}{r} 31 \\ 4 \\ +3 \\ \hline 38 \end{array}$	$\begin{array}{r} 63 \\ 62 \\ +4 \\ \hline 129 \end{array}$	$\begin{array}{r} 76 \\ 82 \\ +1 \\ \hline 159 \end{array}$	$\begin{array}{r} 43 \\ 5 \\ +90 \\ \hline 138 \end{array}$
$\begin{array}{r} 76 \\ 3 \\ +80 \\ \hline 159 \end{array}$	$\begin{array}{r} 3 \\ 94 \\ +82 \\ \hline 179 \end{array}$	$\begin{array}{r} 48 \\ 71 \\ +10 \\ \hline 129 \end{array}$	$\begin{array}{r} 63 \\ 4 \\ +71 \\ \hline 138 \end{array}$	$\begin{array}{r} 93 \\ 91 \\ +4 \\ \hline 188 \end{array}$
$\begin{array}{r} 3 \\ 82 \\ +73 \\ \hline 158 \end{array}$	$\begin{array}{r} 73 \\ 84 \\ +91 \\ \hline 248 \end{array}$	$\begin{array}{r} 38 \\ 40 \\ +21 \\ \hline 99 \end{array}$	$\begin{array}{r} 43 \\ 82 \\ +14 \\ \hline 139 \end{array}$	$\begin{array}{r} 91 \\ 42 \\ +33 \\ \hline 166 \end{array}$
$\begin{array}{r} 483 \\ 14 \\ +2 \\ \hline 499 \end{array}$	$\begin{array}{r} 36 \\ 702 \\ +41 \\ \hline 779 \end{array}$	$\begin{array}{r} 461 \\ 306 \\ +21 \\ \hline 788 \end{array}$	$\begin{array}{r} 906 \\ 31 \\ +2 \\ \hline 939 \end{array}$	$\begin{array}{r} 153 \\ 5 \\ +601 \\ \hline 759 \end{array}$
$\begin{array}{r} 523 \\ 431 \\ +24 \\ \hline 978 \end{array}$	$\begin{array}{r} 703 \\ 242 \\ +31 \\ \hline 976 \end{array}$	$\begin{array}{r} 816 \\ 1 \\ +41 \\ \hline 858 \end{array}$	$\begin{array}{r} 903 \\ 23 \\ +41 \\ \hline 967 \end{array}$	$\begin{array}{r} 326 \\ 12 \\ +421 \\ \hline 759 \end{array}$
$\begin{array}{r} 903 \\ 41 \\ +34 \\ \hline 978 \end{array}$	$\begin{array}{r} 325 \\ 150 \\ +402 \\ \hline 877 \end{array}$	$\begin{array}{r} 244 \\ 321 \\ +212 \\ \hline 777 \end{array}$	$\begin{array}{r} 606 \\ 241 \\ +102 \\ \hline 949 \end{array}$	$\begin{array}{r} 114 \\ 451 \\ +212 \\ \hline 777 \end{array}$

حل کریں۔

$\begin{array}{r} 94 \\ + 403 \\ \hline 2 \end{array}$	$\begin{array}{r} 740 \\ 12 \\ + 3 \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{r} 126 \\ 3 \\ + 10 \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{r} 221 \\ 43 \\ + 2 \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{r} 6 \\ 41 \\ + 341 \\ \hline \end{array}$
$\begin{array}{r} 621 \\ 32 \\ + 4 \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{r} 36 \\ 431 \\ + 1 \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{r} 7 \\ 431 \\ + 60 \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{r} 7 \\ 31 \\ + 441 \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{r} 32 \\ 436 \\ + 1 \\ \hline \end{array}$
$\begin{array}{r} 5 \\ 23 \\ + 840 \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{r} 26 \\ 911 \\ + 2 \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{r} 81 \\ 6 \\ + 401 \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{r} 822 \\ 34 \\ + 2 \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{r} 908 \\ 1 \\ + 60 \\ \hline \end{array}$
$\begin{array}{r} 521 \\ 32 \\ + 16 \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{r} 555 \\ 422 \\ + 11 \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{r} 412 \\ 12 \\ + 321 \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{r} 421 \\ 31 \\ + 16 \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{r} 343 \\ 32 \\ + 412 \\ \hline \end{array}$
$\begin{array}{r} 91 \\ 403 \\ + 301 \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{r} 716 \\ 41 \\ + 230 \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{r} 24 \\ 832 \\ + 133 \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{r} 746 \\ 212 \\ + 11 \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{r} 533 \\ 222 \\ + 14 \\ \hline \end{array}$
$\begin{array}{r} 31 \\ 742 \\ + 124 \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{r} 414 \\ 51 \\ + 223 \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{r} 712 \\ 132 \\ + 41 \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{r} 36 \\ 633 \\ + 230 \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{r} 502 \\ 144 \\ + 21 \\ \hline \end{array}$
$\begin{array}{r} 126 \\ 401 \\ + 312 \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{r} 333 \\ 222 \\ + 444 \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{r} 516 \\ 321 \\ + 161 \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{r} 703 \\ 181 \\ + 114 \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{r} 626 \\ 142 \\ + 130 \\ \hline \end{array}$
$\begin{array}{r} 484 \\ 304 \\ + 101 \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{r} 234 \\ 432 \\ + 111 \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{r} 461 \\ 208 \\ + 130 \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{r} 342 \\ 321 \\ + 213 \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{r} 502 \\ 213 \\ + 161 \\ \hline \end{array}$
$\begin{array}{r} 740 \\ 132 \\ + 126 \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{r} 623 \\ 205 \\ + 131 \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{r} 406 \\ 320 \\ + 231 \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{r} 405 \\ 241 \\ + 322 \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{r} 320 \\ 408 \\ + 170 \\ \hline \end{array}$
$\begin{array}{r} 324 \\ 203 \\ + 142 \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{r} 600 \\ 230 \\ + 146 \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{r} 702 \\ 140 \\ + 132 \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{r} 261 \\ 306 \\ + 320 \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{r} 544 \\ 232 \\ + 102 \\ \hline \end{array}$

کارڈ نمبر: 5

جماعت دوم

جوابات

94 403 + 2 (499)	740 12 + 3 (755)	126 3 + 10 (139)	221 43 + 2 (266)	6 41 + 341 (388)
621 32 + 4 (657)	36 431 + 1 (468)	7 431 + 60 (498)	7 31 + 441 (479)	32 436 + 1 (469)
5 23 + 840 (468)	26 911 + 2 (939)	81 6 + 401 (488)	822 34 + 2 (858)	908 1 + 60 (969)
521 32 + 16 (569)	555 422 + 11 (588)	412 12 + 321 (745)	421 31 + 16 (468)	343 32 + 412 (787)
91 403 + 301 (795)	716 41 + 230 (987)	24 832 + 133 (989)	746 212 + 11 (869)	533 222 + 14 (769)
31 742 + 124 (897)	414 51 + 223 (688)	712 132 + 41 (885)	36 633 + 230 (899)	502 144 + 21 (667)
126 401 + 312 (839)	333 222 + 444 (999)	516 321 + 161 (998)	703 181 + 114 (998)	626 142 + 130 (898)
484 304 + 101 (889)	234 432 + 111 (777)	461 208 + 130 (799)	342 321 + 213 (876)	502 213 + 161 (876)
740 132 + 126 (998)	623 205 + 131 (959)	406 320 + 231 (957)	406 241 + 322 (969)	320 408 + 170 (898)
324 203 + 142 (669)	600 230 + 146 (976)	702 140 + 132 (974)	261 306 + 320 (887)	544 232 + 102 (878)

حل کریں۔

$$3 + 6 = \underline{\quad} \quad 6 + 9 = \underline{\quad} \quad 7 + 4 = \underline{\quad} \quad 8 + 3 = \underline{\quad} \quad 9 + 6 = \underline{\quad}$$

$$3 + 4 = \underline{\quad} \quad 8 + 6 = \underline{\quad} \quad 2 + 9 = \underline{\quad} \quad 6 + 5 = \underline{\quad} \quad 4 + 9 = \underline{\quad}$$

$$5 + 9 = \underline{\quad} \quad 4 + 7 = \underline{\quad} \quad + 6 = \underline{\quad} \quad 4 + 8 = \underline{\quad} \quad 3 + 7 = \underline{\quad}$$

$$4 + 5 = \underline{\quad} \quad 3 + 8 = \underline{\quad} \quad 1 + 6 = \underline{\quad} \quad 7 + 8 = \underline{\quad} \quad 9 + 5 = \underline{\quad}$$

$$7 + 7 = \underline{\quad} \quad 8 + 7 = \underline{\quad} \quad 7 + 6 = \underline{\quad} \quad 2 + 9 = \underline{\quad} \quad 3 + 5 = \underline{\quad}$$

$$1 + 8 = \underline{\quad} \quad 4 + 4 = \underline{\quad} \quad 5 + 2 = \underline{\quad} \quad 2 + 6 = \underline{\quad} \quad 3 + 3 = \underline{\quad}$$

$$5 + 3 = \underline{\quad} \quad 5 + 6 = \underline{\quad} \quad 2 + 5 = \underline{\quad} \quad 1 + 5 = \underline{\quad} \quad 5 + 4 = \underline{\quad}$$

$$5 + 7 = \underline{\quad} \quad 6 + 5 = \underline{\quad} \quad 7 + 3 = \underline{\quad} \quad 5 + 8 = \underline{\quad} \quad 7 + 5 = \underline{\quad}$$

$$7 + 7 = \underline{\quad} \quad 6 + 6 = \underline{\quad} \quad 7 + 9 = \underline{\quad} \quad 8 + 9 = \underline{\quad} \quad 5 + 9 = \underline{\quad}$$

$$8 + 8 = \underline{\quad} \quad 5 + 5 = \underline{\quad} \quad 9 + 4 = \underline{\quad} \quad 6 + 9 = \underline{\quad} \quad 6 + 8 = \underline{\quad}$$

کارڈ نمبر: 6

جماعت دوم

## جوابات

$3 + 6 = 9$

$6 + 9 = 15$

$7 + 4 = 11$

$8 + 3 = 11$

$9 + 6 = 15$

$3 + 4 = 7$

$8 + 6 = 14$

$2 + 9 = 11$

$6 + 5 = 11$

$4 + 9 = 13$

$5 + 9 = 14$

$4 + 7 = 11$

$4 + 6 = 10$

$4 + 8 = 12$

$3 + 7 = 10$

$4 + 5 = 9$

$3 + 8 = 11$

$1 + 6 = 7$

$7 + 8 = 15$

$9 + 5 = 14$

$7 + 7 = 14$

$8 + 7 = 15$

$7 + 6 = 13$

$2 + 9 = 11$

$3 + 5 = 8$

$1 + 8 = 9$

$4 + 4 = 8$

$5 + 2 = 7$

$2 + 6 = 8$

$3 + 3 = 6$

$5 + 3 = 8$

$5 + 6 = 11$

$2 + 5 = 7$

$1 + 5 = 6$

$5 + 4 = 9$

$5 + 7 = 12$

$6 + 5 = 11$

$7 + 3 = 10$

$5 + 8 = 13$

$7 + 5 = 12$

$7 + 7 = 14$

$6 + 6 = 12$

$7 + 9 = 16$

$8 + 9 = 17$

$5 + 9 = 14$

$8 + 8 = 16$

$5 + 5 = 10$

$9 + 4 = 13$

$6 + 9 = 15$

$6 + 8 = 14$

## حل کریں

$$4+7 = \underline{\quad} \quad 4+6+3 = \underline{\quad} \quad 7+4+1 = \underline{\quad} \quad 8+4+1 = \underline{\quad} \quad 6+7+6 = \underline{\quad}$$

$$3+4 = \underline{\quad} \quad 4+4+6 = \underline{\quad} \quad 9+2+7 = \underline{\quad} \quad 7+4+3 = \underline{\quad} \quad 8+2+7 = \underline{\quad}$$

$$7+7 = \underline{\quad} \quad 7+7+4 = \underline{\quad} \quad 6+3+5 = \underline{\quad} \quad 4+1+9 = \underline{\quad} \quad 8+8+8 = \underline{\quad}$$

$$8+4 = \underline{\quad} \quad 7+7+3 = \underline{\quad} \quad 6+2+4 = \underline{\quad} \quad 7+3+2 = \underline{\quad} \quad 5+3+6 = \underline{\quad}$$

$$7+6 = \underline{\quad} \quad 4+5+6 = \underline{\quad} \quad 7+8+5 = \underline{\quad} \quad 6+3+6 = \underline{\quad} \quad 9+4+5 = \underline{\quad}$$

$$8+8 = \underline{\quad} \quad 8+2+8 = \underline{\quad} \quad 3+8+4 = \underline{\quad} \quad 2+2+6 = \underline{\quad} \quad 7+1+3 = \underline{\quad}$$

$$9+4 = \underline{\quad} \quad 4+4+4 = \underline{\quad} \quad 5+6+7 = \underline{\quad} \quad 8+7+6 = \underline{\quad} \quad 3+3+6 = \underline{\quad}$$

$$8+5 = \underline{\quad} \quad 9+9+3 = \underline{\quad} \quad 9+7+2 = \underline{\quad} \quad 4+7+8 = \underline{\quad} \quad 9+3+2 = \underline{\quad}$$

$$9+6 = \underline{\quad} \quad 8+8+7 = \underline{\quad} \quad 4+6+7 = \underline{\quad} \quad 3+2+3 = \underline{\quad} \quad 8+7+5 = \underline{\quad}$$

$$7+8 = \underline{\quad} \quad 9+4+3 = \underline{\quad} \quad 8+4+2 = \underline{\quad} \quad 7+7+6 = \underline{\quad} \quad 5+8+5 = \underline{\quad}$$

کارڈ نمبر: 7

جماعت دوم

## جوابات

$4 + 7 = 11$

$4 + 6 + 3 = 13$

$7 + 4 + 1 = 12$

$8 + 4 + 1 = 13$

$6 + 7 + 6 = 19$

$3 + 4 = 7$

$4 + 4 + 6 = 14$

$9 + 2 + 7 = 18$

$7 + 4 + 3 = 14$

$8 + 2 + 7 = 17$

$7 + 7 = 14$

$7 + 7 + 4 = 18$

$6 + 3 + 5 = 14$

$4 + 1 + 9 = 14$

$8 + 8 + 8 = 24$

$8 + 4 = 12$

$7 + 7 + 3 = 17$

$6 + 2 + 4 = 12$

$7 + 3 + 2 = 12$

$5 + 3 + 6 = 14$

$7 + 6 = 13$

$4 + 5 + 6 = 15$

$7 + 8 + 5 = 20$

$6 + 3 + 6 = 15$

$9 + 4 + 6 = 18$

$8 + 8 = 16$

$8 + 2 + 8 = 18$

$3 + 8 + 4 = 15$

$2 + 2 + 6 = 10$

$7 + 1 + 3 = 11$

$9 + 4 = 13$

$4 + 4 + 4 = 12$

$5 + 6 + 7 = 18$

$8 + 7 + 6 = 21$

$3 + 3 + 6 = 12$

$8 + 5 = 13$

$9 + 9 + 3 = 21$

$9 + 7 + 2 = 18$

$4 + 7 + 8 = 19$

$9 + 3 + 2 = 14$

$9 + 6 = 15$

$8 + 8 + 7 = 23$

$4 + 6 + 7 = 17$

$3 + 2 + 3 = 8$

$8 + 7 + 5 = 20$

$7 + 8 = 15$

$9 + 4 + 3 = 16$

$8 + 4 + 2 = 14$

$7 + 7 + 6 = 20$

$5 + 8 + 5 = 18$



حل کریں۔

$$5+14= \underline{\quad} \quad 41+32= \underline{\quad} \quad 53+36= \underline{\quad} \quad 71+25= \underline{\quad} \quad 84+13= \underline{\quad}$$

$$6+43= \underline{\quad} \quad 38+11= \underline{\quad} \quad 61+17= \underline{\quad} \quad 74+21= \underline{\quad} \quad 55+44= \underline{\quad}$$

$$5+84= \underline{\quad} \quad 20+33= \underline{\quad} \quad 31+54= \underline{\quad} \quad 50+25= \underline{\quad} \quad 61+28= \underline{\quad}$$

$$7+62= \underline{\quad} \quad 71+12= \underline{\quad} \quad 83+25= \underline{\quad} \quad 11+92= \underline{\quad} \quad 76+72= \underline{\quad}$$

$$9+90= \underline{\quad} \quad 21+34= \underline{\quad} \quad 42+22= \underline{\quad} \quad 58+31= \underline{\quad} \quad 47+72= \underline{\quad}$$

$$41+5= \underline{\quad} \quad 12+55= \underline{\quad} \quad 85+31= \underline{\quad} \quad 61+18= \underline{\quad} \quad 94+33= \underline{\quad}$$

$$53+5= \underline{\quad} \quad 84+32= \underline{\quad} \quad 21+35= \underline{\quad} \quad 86+41= \underline{\quad} \quad 43+14= \underline{\quad}$$

$$63+2= \underline{\quad} \quad 91+43= \underline{\quad} \quad 62+24= \underline{\quad} \quad 74+14= \underline{\quad} \quad 91+13= \underline{\quad}$$

$$74+4= \underline{\quad} \quad 21+13= \underline{\quad} \quad 73+42= \underline{\quad} \quad 41+36= \underline{\quad} \quad 51+36= \underline{\quad}$$

$$81+6= \underline{\quad} \quad 40+32= \underline{\quad} \quad 38+11= \underline{\quad} \quad 63+52= \underline{\quad} \quad 91+36= \underline{\quad}$$

کارڈ نمبر: 8

جماعت دوم

جوابات

$5 + 14 = 19$

$41 + 32 = 73$

$53 + 36 = 89$

$71 + 25 = 96$

$84 + 13 = 97$

$6 + 43 = 49$

$38 + 11 = 49$

$61 + 17 = 78$

$74 + 21 = 95$

$55 + 44 = 99$

$5 + 84 = 89$

$20 + 33 = 53$

$31 + 54 = 85$

$50 + 25 = 75$

$61 + 28 = 89$

$7 + 62 = 69$

$71 + 12 = 83$

$83 + 25 = 108$

$11 + 92 = 103$

$76 + 72 = 148$

$9 + 90 = 99$

$21 + 34 = 55$

$42 + 22 = 64$

$58 + 31 = 89$

$47 + 72 = 119$

$41 + 5 = 46$

$12 + 55 = 67$

$85 + 31 = 116$

$61 + 18 = 79$

$94 + 33 = 127$

$53 + 5 = 58$

$84 + 32 = 116$

$21 + 35 = 56$

$86 + 41 = 127$

$43 + 14 = 57$

$63 + 2 = 65$

$91 + 43 = 134$

$62 + 24 = 86$

$74 + 14 = 88$

$91 + 13 = 104$

$74 + 4 = 78$

$21 + 13 = 34$

$73 + 42 = 115$

$41 + 36 = 77$

$51 + 36 = 87$

$81 + 6 = 87$

$40 + 32 = 72$

$38 + 11 = 49$

$63 + 52 = 115$

$91 + 36 = 127$

## حل کریں

$12+2 = \underline{\quad} \quad 14+5 = \underline{\quad} \quad 38+1 = \underline{\quad} \quad 75+2 = \underline{\quad} \quad 62+3 = \underline{\quad}$

$11+4 = \underline{\quad} \quad 58+1 = \underline{\quad} \quad 6+41 = \underline{\quad} \quad 5+62 = \underline{\quad} \quad 4+83 = \underline{\quad}$

$16+3 = \underline{\quad} \quad 11+7 = \underline{\quad} \quad 23+6 = \underline{\quad} \quad 43+5 = \underline{\quad} \quad 6+33 = \underline{\quad}$

$7+10 = \underline{\quad} \quad 5+44 = \underline{\quad} \quad 3+92 = \underline{\quad} \quad 32+5 = \underline{\quad} \quad 4+71 = \underline{\quad}$

$6+12 = \underline{\quad} \quad 6+51 = \underline{\quad} \quad 7+32 = \underline{\quad} \quad 17+2 = \underline{\quad} \quad 24+4 = \underline{\quad}$

$36+2 = \underline{\quad} \quad 42+6 = \underline{\quad} \quad 31+7 = \underline{\quad} \quad 8+51 = \underline{\quad} \quad 52+6 = \underline{\quad}$

$61+7 = \underline{\quad} \quad 72+6 = \underline{\quad} \quad 9+70 = \underline{\quad} \quad 80+8 = \underline{\quad} \quad 72+4 = \underline{\quad}$

$31+5 = \underline{\quad} \quad 7+31 = \underline{\quad} \quad 43+3 = \underline{\quad} \quad 6+21 = \underline{\quad} \quad 52+6 = \underline{\quad}$

$61+8 = \underline{\quad} \quad 3+72 = \underline{\quad} \quad 73+5 = \underline{\quad} \quad 82+4 = \underline{\quad} \quad 4+43 = \underline{\quad}$

$31+6 = \underline{\quad} \quad 46+2 = \underline{\quad} \quad 8+31 = \underline{\quad} \quad 54+4 = \underline{\quad} \quad 9+20 = \underline{\quad}$

کارڈ نمبر: 9

جماعت دوم

جوابات

$12 + 2 = 14$

$14 + 5 = 19$

$38 + 1 = 39$

$75 + 2 = 77$

$64 + 3 = 67$

$11 + 4 = 15$

$58 + 1 = 59$

$6 + 41 = 47$

$5 + 62 = 67$

$4 + 83 = 87$

$16 + 3 = 19$

$11 + 7 = 18$

$23 + 6 = 29$

$43 + 5 = 48$

$6 + 33 = 39$

$7 + 10 = 17$

$5 + 44 = 49$

$3 + 92 = 95$

$32 + 5 = 37$

$4 + 71 = 75$

$6 + 12 = 18$

$6 + 51 = 57$

$7 + 32 = 39$

$17 + 2 = 19$

$24 + 4 = 28$

$36 + 2 = 38$

$42 + 6 = 48$

$31 + 7 = 38$

$8 + 51 = 59$

$52 + 6 = 58$

$61 + 7 = 68$

$72 + 6 = 78$

$9 + 70 = 79$

$80 + 8 = 88$

$72 + 4 = 76$

$31 + 5 = 36$

$7 + 31 = 38$

$43 + 3 = 46$

$6 + 21 = 27$

$52 + 6 = 58$

$61 + 8 = 69$

$3 + 72 = 75$

$73 + 5 = 78$

$82 + 4 = 86$

$4 + 43 = 47$

$31 + 6 = 37$

$46 + 2 = 48$

$8 + 31 = 39$

$54 + 4 = 58$

$9 + 20 = 29$

حل کریں۔

$$7+8 = \underline{\quad} \quad 8+9 = \underline{\quad} \quad 6+7 = \underline{\quad} \quad 4+5 = \underline{\quad} \quad 9+6 = \underline{\quad}$$

$$8+4 = \underline{\quad} \quad 7+5 = \underline{\quad} \quad 5+8 = \underline{\quad} \quad 9+4 = \underline{\quad} \quad 8+6 = \underline{\quad}$$

$$4+7 = \underline{\quad} \quad 9+6+2 = \underline{\quad} \quad 4+3+4 = \underline{\quad} \quad 7+7+8 = \underline{\quad} \quad 9+6+5 = \underline{\quad}$$

$$6+9 = \underline{\quad} \quad 4+8+7 = \underline{\quad} \quad 3+8+9 = \underline{\quad} \quad 4+4+8 = \underline{\quad} \quad 9+9+9 = \underline{\quad}$$

$$74+5 = \underline{\quad} \quad 86+2 = \underline{\quad} \quad 73+6 = \underline{\quad} \quad 62+7 = \underline{\quad} \quad 51+8 = \underline{\quad}$$

$$8+40 = \underline{\quad} \quad 3+23 = \underline{\quad} \quad 6+16 = \underline{\quad} \quad 21+6 = \underline{\quad} \quad 4+32 = \underline{\quad}$$

$$53+6 = \underline{\quad} \quad 31+6 = \underline{\quad} \quad 4+73 = \underline{\quad} \quad 9+80 = \underline{\quad} \quad 7+71 = \underline{\quad}$$

$$16+23 = \underline{\quad} \quad 74+23 = \underline{\quad} \quad 61+25 = \underline{\quad} \quad 70+16 = \underline{\quad} \quad 46+31 = \underline{\quad}$$

$$61+14 = \underline{\quad} \quad 83+72 = \underline{\quad} \quad 94+62 = \underline{\quad} \quad 46+72 = \underline{\quad} \quad 38+91 = \underline{\quad}$$

$$86+82 = \underline{\quad} \quad 47+71 = \underline{\quad} \quad 84+93 = \underline{\quad} \quad 76+72 = \underline{\quad} \quad 61+67 = \underline{\quad}$$

کارڈ نمبر: 10

جماعت دوم

جوابات

$7 + 8 = (15)$

$8 + 9 = (17)$

$6 + 7 = (13)$

$4 + 5 = (9)$

$9 + 6 = (15)$

$8 + 4 = (12)$

$7 + 5 = (12)$

$5 + 8 = (13)$

$9 + 4 = (13)$

$8 + 6 = (14)$

$4 + 7 = (11)$

$9 + 6 + 2 = (17)$

$4 + 3 + 4 = (11)$

$7 + 7 + 8 = (22)$

$9 + 6 + 5 = (20)$

$6 + 9 = (15)$

$4 + 8 + 7 = (19)$

$3 + 8 + 9 = (20)$

$4 + 4 + 8 = (16)$

$9 + 9 + 9 = (27)$

$74 + 5 = (79)$

$86 + 2 = (88)$

$73 + 6 = (79)$

$62 + 7 = (69)$

$51 + 8 = (59)$

$8 + 40 = (48)$

$3 + 23 = (26)$

$6 + 16 = (22)$

$21 + 6 = (27)$

$4 + 32 = (36)$

$53 + 6 = (59)$

$31 + 6 = (37)$

$4 + 73 = (77)$

$9 + 80 = (89)$

$7 + 71 = (78)$

$16 + 23 = (39)$

$74 + 23 = (97)$

$61 + 25 = (86)$

$70 + 16 = (86)$

$46 + 31 = (77)$

$61 + 14 = (75)$

$83 + 72 = (155)$

$94 + 62 = (156)$

$46 + 72 = (118)$

$38 + 91 = (129)$

$86 + 82 = (168)$

$47 + 71 = (118)$

$84 + 93 = (177)$

$76 + 72 = (148)$

$61 + 67 = (128)$

$$\begin{array}{r} 3 \\ - 1 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 4 \\ - 4 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 5 \\ - 3 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 6 \\ - 3 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 7 \\ - 6 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 7 \\ - 7 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 8 \\ - 4 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 8 \\ - 2 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 9 \\ - 1 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 9 \\ - 2 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 2 \\ - 1 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 3 \\ - 2 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 3 \\ - 0 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 4 \\ - 1 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 4 \\ - 2 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 7 \\ - 4 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 9 \\ - 6 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 9 \\ - 7 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 6 \\ - 5 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 6 \\ - 4 \\ \hline \end{array}$$

کارڈ نمبر ۱۱

جوابات

جماعت دوم

$$\begin{array}{r} 3 \\ - 1 \\ \hline 2 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 4 \\ - 4 \\ \hline 0 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 5 \\ - 3 \\ \hline 2 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 6 \\ - 3 \\ \hline 3 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 7 \\ - 6 \\ \hline 1 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 7 \\ - 7 \\ \hline 0 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 8 \\ - 4 \\ \hline 4 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 8 \\ - 2 \\ \hline 6 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 9 \\ - 1 \\ \hline 8 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 9 \\ - 2 \\ \hline 7 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 2 \\ - 1 \\ \hline 1 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 3 \\ - 2 \\ \hline 1 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 3 \\ - 0 \\ \hline 3 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 4 \\ - 1 \\ \hline 3 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 4 \\ - 2 \\ \hline 2 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 7 \\ - 4 \\ \hline 3 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 9 \\ - 6 \\ \hline 3 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 9 \\ - 7 \\ \hline 2 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 6 \\ - 5 \\ \hline 1 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 6 \\ - 4 \\ \hline 2 \end{array}$$



$9-5=$

$8-4=$

$7-3=$

$6-1=$

$4-2=$

$4-1=$

$3-1=$

$7-1=$

$5-1=$

$3-0=$

$2-1=$

$7-0=$

$8-1=$

$8-8=$

$4-3=$

$6-4=$

$5-2=$

$5-0=$

$7-6=$

$8-6=$

کلردنبرجا

جوابات

جماعت دوم

$9-5=4$

$8-4=4$

$7-3=4$

$6-1=5$

$4-2=2$

$4-1=3$

$3-1=2$

$7-1=6$

$5-1=4$

$3-0=3$

$2-1=1$

$7-0=7$

$8-1=7$

$8-8=0$

$4-3=1$

$6-4=2$

$5-2=3$

$5-0=5$

$7-6=1$

$8-6=2$

شکل میں دیئے گئے سوالات کو حل کریں اور ان کے جوابات کو ترتیب وار لکھ کر ایک جملہ بنا لیں

سب سے چھوٹا عدد کے لئے = آج  
 سب سے بڑے عدد کے لئے = گے  
 دوسرے عدد کے لئے = کرو  
 تیسرے عدد کے لئے = پکارتیں

1  $5 + 0 = \underline{\quad}$

2  $4 + 1 = \underline{\quad}$

3  $\begin{array}{r} 3 \\ + 2 \\ \hline \end{array}$

4  $\begin{array}{r} 3 \\ + 3 \\ \hline \end{array}$

5  $\begin{array}{r} 2 \\ + 3 \\ \hline \end{array}$

6  $\begin{array}{r} 0 \\ + 7 \\ \hline \end{array}$

7  $\begin{array}{r} 6 \\ + 2 \\ \hline \end{array}$

8  $\begin{array}{r} 4 \\ + 4 \\ \hline \end{array}$

9  $\begin{array}{r} 5 \\ + 3 \\ \hline \end{array}$

10  $\begin{array}{r} 7 \\ + 1 \\ \hline \end{array}$

11  $\begin{array}{r} 8 \\ + 0 \\ \hline \end{array}$

12  $\begin{array}{r} 3 \\ + 5 \\ \hline \end{array}$

13  $\begin{array}{r} 3 \\ + 4 \\ \hline \end{array}$

14  $\begin{array}{r} 6 \\ + 1 \\ \hline \end{array}$

15  $\begin{array}{r} 5 \\ + 2 \\ \hline \end{array}$

16  $4 + 2 = \underline{\quad}$

17  $5 + 1 = \underline{\quad}$

18  $6 + 0 = \underline{\quad}$

جوابات


(1)	5	(10)	8
(2)	5	(11)	8
(3)	5	(12)	8
(4)	6	(13)	7
(5)	5	(14)	7
(6)	7	(15)	7
(7)	8	(16)	6
(8)	8	(17)	6
(9)	8	(18)	6

جملہ آج کدو پکائیں گے۔

ترتیب طر اعداد 5 6 7 8

نیچے دیئے گئے سوالات کو حل کریں اور ان کے جوابات کو ترتیب وار رکھ کر ایک جملہ بنائیں

نصف = 3 = 4 = 5 صفائی = 2 = ایمان = 4



کارڈ نمبر: 14

جماعت دوم

جوابات

$2 + 1 = \boxed{3}$

$5 + 0 = \boxed{5}$

$4 + 0 = \boxed{4}$

$4 \times 1 = \boxed{5}$

$3 + 1 = \boxed{4}$

$1 + 3 = \boxed{4}$

$3 + 0 = \boxed{3}$

$0 + 3 = \boxed{3}$

$2 + 3 = \boxed{5}$

$0 + 4 = \boxed{4}$

$2 + 3 = \boxed{5}$

$2 + 2 = \boxed{4}$

$2 + 2 = \boxed{4}$

$1 + 1 = \boxed{2}$

$2 + 0 = \boxed{2}$

صفاً  $\frac{2}{2}$  نصف  $\frac{3}{3}$  ایمان  $\frac{4}{4}$   $\frac{5}{5}$

نیچے شکل میں دیئے گئے سوالات کو حل کر کے اور ان کے جوابات کو ترتیب وار رکھ کر ایک جملہ بنائیں۔

سب سے چھوٹا عدد کے لئے: یہ دوسرے عدد کے لئے: کس پھرتھے عدد کے لئے: کی  
 سب سے بڑے عدد کے لئے: ہے تیسرے عدد کے لئے: چینر پانچویں عدد کے لئے: تصویر

(1)  $7 + 7 =$

(2)  $6 + 8 =$

(3)  $7 + 5 =$

(4)  $7 + 6 =$

(5)  $8 + 4 =$

(6)  $5 + 9 =$

(7)  $8 + 6 =$

(8)  $3 + 7 =$

(9)  $8 + 3 =$

(10)  $9 + 2 =$

(11)  $9 + 6 =$

(12)  $8 + 2 =$

(13)  $5 + 6 =$

(14)  $3 + 9 =$

(15)  $9 + 5 =$

(16)  $4 + 7 =$

(17)  $6 + 6 =$

(18)  $5 + 8 =$

(19)  $4 + 8 =$

(20)  $8 + 7 =$

(21)  $7 + 8 =$

(22)  $9 + 4 =$

(23)  $6 + 7 =$

(24)  $8 + 5 =$

(25)  $4 + 9 =$

(26)  $5 + 7 =$

(27)  $9 + 2 =$

(28)  $6 + 9 =$

(29)  $2 + 9 =$

(30)  $6 + 5 =$

کارڈ نمبر: 15

جماعت دوم

## جوابات



(1)	14	(11)	15	(21)	15
(2)	14	(12)	10	(22)	13
(3)	12	(13)	11	(23)	13
(4)	13	(14)	12	(24)	13
(5)	12	(15)	14	(25)	13
(6)	14	(16)	11	(26)	12
(7)	14	(17)	12	(27)	11
(8)	10	(18)	13	(28)	15
(9)	11	(19)	12	(29)	11
(10)	11	(20)	15	(30)	11

جملہ :- یہ کس چیز کی تصویر ہے

ترتیب وار اعداد ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵



ذرا غور سے نیچے دی گئی شکل میں دائروں مربعوں اور مستطیلوں کی تعداد شکلوں کے سامنے لکھیے



کارڈ نمبر: ۱۰۱

جوابات

جماعت دوم

(۱) دائرہ = ۹

(۲) مربع = ۱۳

(۳) - کون = ۱۱

(۴) مستطیل = ۸

دیئے گئے سوالات کو حل کر کے اور ان کے جوابات کو ترتیب وار رکھ کر ایک جملہ بتائیں۔

سب سے بڑے عدد کیلئے = ہے سب سے چھوٹے عدد کے لئے = آج درمیانی عدد کے لئے = "سروی"

(1)	$6 + 4 = \underline{\quad}$	
(2)	$5 + 5 = \underline{\quad}$	
(3)	$\begin{array}{r} 7 \\ + 2 \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{r} 8 \\ + 2 \\ \hline \end{array}$
(5)	$\begin{array}{r} 4 \\ + 5 \\ \hline \end{array}$	

(6)	$\begin{array}{r} 7 \\ + 3 \\ \hline \end{array}$	(8)	$9 + 1 = \underline{\quad}$
(7)	$\begin{array}{r} 1 \\ + 9 \\ \hline \end{array}$	(9)	$6 + 2 = \underline{\quad}$
		(10)	$4 + 6 = \underline{\quad}$
		(11)	$3 + 5 = \underline{\quad}$
		(12)	$2 + 8 = \underline{\quad}$

(13)	$\begin{array}{r} 5 \\ + 5 \\ \hline \end{array}$	(14)	$\begin{array}{r} 4 \\ + 5 \\ \hline \end{array}$	(15)	$\begin{array}{r} 9 \\ + 1 \\ \hline \end{array}$
(17)	$\begin{array}{r} 0 \\ + 10 \\ \hline \end{array}$	(16)	$\begin{array}{r} 3 \\ + 7 \\ \hline \end{array}$	(19)	$\begin{array}{r} 8 \\ + 2 \\ \hline \end{array}$
		(18)	$\begin{array}{r} 3 \\ + 6 \\ \hline \end{array}$		

جماعت دوم

کارڈ نمبر: 17

جوابات


(1)	10	(11)	8
(2)	10	(12)	10
(3)	9	(13)	10
(4)	10	(14)	9
(5)	9	(15)	10
(6)	10	(16)	10
(7)	10	(17)	10
(8)	10	(18)	9
(9)	8	(19)	10
(10)	10		

جملہ :- آج سردی ہے ۔


ترتیب و اعداد :- 8 9 10

نیچے دیئے گئے سوالات کو حل کر کے اور ان کے جوابات کو ترتیب وار رکھ کر ایک جملہ بتائیں۔

سب چھوٹے جواب کے لئے = "اسلام" سب سے بڑے جواب کیلئے = "دینے" دوسرے چھوٹے جواب کیلئے = "ہمارا" تیسرے جواب کیلئے = "دین"



جوابات



جملہ :- اسلام ہمارا دین ہے

ترتیب وار اعداد 0 1 2 3

دیئے گئے سوالات کو حل کر کے اور ان کے جوابات کو ترتیب وار رکھ کر ایک جملہ بنا میں۔

پانچویں عدد کیلئے = کریں۔ سب سے چھوٹے عدد کیلئے = آپ چوتھے عدد کیلئے = نام

تیسرے عدد کیلئے = ہیں۔ دوسرے عدد کے لئے = چھٹیوں سب سے بڑے عدد کیلئے = گے

(1)  $7 - 5 = \underline{\quad}$

(2)  $6 - 3 = \underline{\quad}$

(3)  $5 - 4 = \underline{\quad}$

(4)  $7 - 4 = \underline{\quad}$

(5)  $6 - 4 = \underline{\quad}$

(6)  $4$

(7)  $5$

(8)  $7 - 6 = \underline{\quad}$

(9)  $1 - 0 = \underline{\quad}$

(10)  $2 - 0 = \underline{\quad}$

(11)  $4 - 1 = \underline{\quad}$

(12)  $5 - 2 = \underline{\quad}$

(13)  $3 - 2 = \underline{\quad}$

(14)  $6 - 5 = \underline{\quad}$

(15)  $6$

(16)  $5 - 3 = \underline{\quad}$

(17)  $7$

(18)  $7$

(19)  $6$

(20)  $7 - 2 = \underline{\quad}$

(21)  $7 - 2 = \underline{\quad}$

(22)  $5 - 0 = \underline{\quad}$

(23)  $6 - 1 = \underline{\quad}$

کارڈ نمبر: 19

جماعت دوم

جوابات

(2)	2	(12)	3
(2)	3	(13)	1
(3)	1	(14)	4
(4)	3	(15)	1
(5)	2	(16)	2
(6)	4	(17)	4
(7)	4	18	6
(8)	1	(19)	6
(9)	1	(20)	5
(10)	2	(21)	5
(11)	3	(22)	5

جملہ آپ چھٹیوں میں کام کریں گے۔

ترتیب وار نمبر 1 2 3 4 5 6



عباروں میں دیئے گئے سوالات کو حل کر کے ان کے جوابات کو ترتیب وار لکھ کر ایک جملہ بنائیں۔

سب سے چھوٹا عدد کے لئے = نہاریں دوسرے عدد کے لئے = اٹھ  
 سب سے بڑے عدد کے لئے = پہلیں تیسرے عدد کے لئے = ریجے

(1)  $\begin{array}{r} 8 \\ - 4 \\ \hline \end{array}$  (2)  $\begin{array}{r} 12 \\ - 6 \\ \hline \end{array}$  (3)  $\begin{array}{r} 11 \\ - 6 \\ \hline \end{array}$  (4)  $\begin{array}{r} 8 \\ - 2 \\ \hline \end{array}$

(5)  $\begin{array}{r} 12 \\ - 9 \\ \hline \end{array}$  (6)  $\begin{array}{r} 11 \\ - 5 \\ \hline \end{array}$  (7)  $\begin{array}{r} 9 \\ - 6 \\ \hline \end{array}$  (8)  $\begin{array}{r} 10 \\ - 5 \\ \hline \end{array}$  (9)  $\begin{array}{r} 7 \\ - 1 \\ \hline \end{array}$  (10)  $\begin{array}{r} 5 \\ - 2 \\ \hline \end{array}$  (11)  $\begin{array}{r} 9 \\ - 5 \\ \hline \end{array}$


(12)  $\begin{array}{r} 4 \\ - 1 \\ \hline \end{array}$  (13)  $\begin{array}{r} 3 \\ - 0 \\ \hline \end{array}$  (14)  $\begin{array}{r} 6 \\ - 3 \\ \hline \end{array}$  (15)  $\begin{array}{r} 10 \\ - 6 \\ \hline \end{array}$  (16)  $\begin{array}{r} 11 \\ - 8 \\ \hline \end{array}$  (17)  $\begin{array}{r} 6 \\ - 0 \\ \hline \end{array}$

(18)  $\begin{array}{r} 8 \\ - 5 \\ \hline \end{array}$  (19)  $\begin{array}{r} 11 \\ - 7 \\ \hline \end{array}$  (20)  $\begin{array}{r} 10 \\ - 7 \\ \hline \end{array}$  (21)  $\begin{array}{r} 8 \\ - 3 \\ \hline \end{array}$  (22)  $\begin{array}{r} 7 \\ - 4 \\ \hline \end{array}$

(23)  $\begin{array}{r} 9 \\ - 4 \\ \hline \end{array}$  (24)  $\begin{array}{r} 12 \\ - 8 \\ \hline \end{array}$  (25)  $\begin{array}{r} 9 \\ - 3 \\ \hline \end{array}$

غباروں میں دیے گئے سوالات کو حل کر کے ان کے جوابات کو ترتیب وار رکھ کر ایک جملہ بنائیں۔

سب سے پھڑا عدد کے لئے = غباریں دو سر عدد کے لئے = اڑ  
سب سے بڑے عدد کے لئے = ہیں تیسرے عدد کے لئے = رہے



جملہ = غباریں اڑ رہے ہیں  
3 - 4 - 5 - 6

دیئے گئے سوالات کو حل کریں اور ان کے جوابات کے اعداد کی نیچے دیئے گئے خانوں میں ترتیب وار درج کیا  
ترتیب نزولی سے لکھیں۔ ہر جواب کے مطابق دیا گیا اردو کا لفظ نچلے خانوں کے اوپر لکھیں۔ پھر جملے کو پڑھئے۔

$\begin{array}{r} 42 \\ - 6 \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{r} 40 \\ - 1 \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{r} 49 \\ - 8 \\ \hline \end{array}$
کی	بڑی	دریائے
$\begin{array}{r} 50 \\ - 7 \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{r} 41 \\ - 6 \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{r} 51 \\ - 9 \\ \hline \end{array}$
ہے	دنیا	نیل
$\begin{array}{r} 43 \\ - 5 \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{r} 45 \\ - 5 \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{r} 44 \\ - 7 \\ \hline \end{array}$
سے	بہتر	سب

کارڈ نمبر: 21

جماعت دوم

جوابات

$\begin{array}{r} 42 \\ - 6 \\ \hline 36 \end{array}$ کی	$\begin{array}{r} 40 \\ - 1 \\ \hline 39 \end{array}$ ٹری	$\begin{array}{r} 49 \\ - 8 \\ \hline 41 \end{array}$ دریائے
$\begin{array}{r} 50 \\ - 7 \\ \hline 43 \end{array}$ سے	$\begin{array}{r} 41 \\ - 6 \\ \hline 35 \end{array}$ دنیا	$\begin{array}{r} 51 \\ - 9 \\ \hline 42 \end{array}$ نیل
$\begin{array}{r} 43 \\ - 5 \\ \hline 38 \end{array}$ سے	$\begin{array}{r} 45 \\ - 5 \\ \hline 40 \end{array}$ نہر	$\begin{array}{r} 44 \\ - 7 \\ \hline 37 \end{array}$ سب

دنیا کی سب سے بڑی نہر دریائے نیل سے  
35 36 37 38 39 40 41 42 43

نیچے تنکی میں دیئے گئے سوالات کو حل کر کے اور ان کے جوابات کو ترتیب وار رکھ کر ایک جملہ بنائیں۔

دوسرے عدد کے لئے = پہنچ تیسرے عدد کے لئے = بولا

سب سے چھوٹا عدد کے لئے = ہمیشہ سب سے بڑا عدد کے لئے = کرو

(1)  $6 - 1 = \square$

(2)  $9 - 6 = \square$

(3)  $10 - 5 = \square$

(4)  $7 - 4 = \square$

(5)  $7 - 5 = \square$

(6)  $8 - 4 = \square$

(7)  $8 - 3 = \square$

(8)  $9 - 7 = \square$

(9)  $6 - 4 = \square$

(10)  $6 - 2 = \square$

(11)  $10 - 7 = \square$

(12)  $5 - 0 = \square$

(13)  $9 - 4 = \square$

(14)  $7 - 3 = \square$

(15)  $8 - 6 = \square$

(16)  $8 - 5 = \square$


(17)  $9 - 5 = \square$

(18)  $5 - 3 = \square$

(19)  $10 - 8 = \square$

(20)  $7 - 2 = \square$

نیچے خالی جگہوں میں مناسب اعداد لکھیں۔



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
$\begin{array}{r} \text{🐾} \\ + 2 \\ \hline 10 \end{array}$	$\begin{array}{r} 7 \\ + \text{🐾} \\ \hline 7 \end{array}$	$\begin{array}{r} \text{🐾} \\ + 9 \\ \hline 10 \end{array}$	$\begin{array}{r} 4 \\ + 5 \\ \hline \text{🐾} \end{array}$	$\begin{array}{r} 3 \\ + \text{🐾} \\ \hline 5 \end{array}$	$\begin{array}{r} 10 \\ + \text{🐾} \\ \hline 10 \end{array}$

جوابات

ترتیب وار لکھاؤ:- 5 4 3 2  
 جملہ:- ہمیشہ سچ بولا کرو






The butterfly-shaped worksheet contains the following math problems:

- Top left wing:  $\begin{array}{r} 12 \\ -1 \\ \hline 5 \end{array}$ ,  $9-6=3$
- Top right wing:  $10-7=3$ ,  $\begin{array}{r} 5 \\ -0 \\ \hline 5 \end{array}$
- Middle left wing:  $13$ ,  $10-5=5$
- Middle right wing:  $9-4=5$
- Bottom left wing:  $16$ ,  $7-4=3$ ,  $\begin{array}{r} 15 \\ -5 \\ \hline 2 \end{array}$ ,  $\begin{array}{r} 8 \\ -4 \\ \hline 4 \end{array}$
- Bottom right wing:  $8-5=3$ ,  $\begin{array}{r} 6 \\ -3 \\ \hline 4 \end{array}$ ,  $\begin{array}{r} 8 \\ -6 \\ \hline 2 \end{array}$
- Bottom center:  $\begin{array}{r} 6 \\ -2 \\ \hline 4 \end{array}$ ,  $\begin{array}{r} 9 \\ -5 \\ \hline 4 \end{array}$
- Bottom left wing:  $17$ ,  $8-3=5$ ,  $\begin{array}{r} 19 \\ -9 \\ \hline 2 \end{array}$ ,  $\begin{array}{r} 6 \\ -4 \\ \hline 2 \end{array}$
- Bottom right wing:  $7$ ,  $7-2=5$ ,  $\begin{array}{r} 5 \\ -3 \\ \hline 2 \end{array}$ ,  $\begin{array}{r} 8 \\ -8 \\ \hline 2 \end{array}$

At the bottom, a box contains a pencil and the following addition problems:

(1) $\begin{array}{r} 8 \\ +2 \\ \hline 10 \end{array}$	(2) $\begin{array}{r} 7 \\ +0 \\ \hline 7 \end{array}$	(3) $\begin{array}{r} 1 \\ +9 \\ \hline 10 \end{array}$	(4) $\begin{array}{r} 4 \\ +5 \\ \hline 9 \end{array}$	(5) $\begin{array}{r} 3 \\ +2 \\ \hline 5 \end{array}$	$\begin{array}{r} 10 \\ +0 \\ \hline 10 \end{array}$
---	--	---	--	--	--

ہر گاڑی میں دیئے گئے اعداد کو خالی جگہوں میں مناسب اعداد لکھ کر مکمل کریں۔



کارڈ نمبر: 23

جماعت دوم

### جوابات

4	$4 + 6 = 10$	$6 + 4 = 10$
6 10	$10 - 6 = 4$	$10 - 4 = 6$

7	$7 + 2 = 9$	$2 + 7 = 9$
2 9	$9 - 2 = 7$	$9 - 7 = 2$

8	$8 + 2 = 10$	$2 + 8 = 10$
2 10	$10 - 2 = 8$	$10 - 8 = 2$


6	$6 + 3 = 9$	$3 + 6 = 9$
3 9	$9 - 3 = 6$	$9 - 6 = 3$

7	$7 + 3 = 10$	$3 + 7 = 10$
3 10	$10 - 3 = 7$	$10 - 7 = 3$



بنڈل کو گن کر عدد لکھیں اور عدد کو مقامی قیمت کے لحاظ سے علیحدہ کریں۔


1.



99

دہائی	اکائی


2.



—

دہائی	اکائی


3.



—

دہائی	اکائی


4.



—

دہائی	اکائی


5.



—

دہائی	اکائی







6.



—

دہائی	اکائی

جوابات

1.		99	<table border="1" data-bbox="982 425 1120 515"> <tr> <td>اڪائي</td> <td>اڪائي</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>1</td> </tr> </table>	اڪائي	اڪائي	8	1
اڪائي	اڪائي						
8	1						
2.		81	<table border="1" data-bbox="982 548 1120 638"> <tr> <td>اڪائي</td> <td>اڪائي</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>1</td> </tr> </table>	اڪائي	اڪائي	8	1
اڪائي	اڪائي						
8	1						
3.		96	<table border="1" data-bbox="982 672 1120 761"> <tr> <td>اڪائي</td> <td>اڪائي</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>6</td> </tr> </table>	اڪائي	اڪائي	9	6
اڪائي	اڪائي						
9	6						
4.		93	<table border="1" data-bbox="982 795 1120 884"> <tr> <td>اڪائي</td> <td>اڪائي</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>3</td> </tr> </table>	اڪائي	اڪائي	9	3
اڪائي	اڪائي						
9	3						
5.		84	<table border="1" data-bbox="982 918 1120 1008"> <tr> <td>اڪائي</td> <td>اڪائي</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>4</td> </tr> </table>	اڪائي	اڪائي	8	4
اڪائي	اڪائي						
8	4						
6.		87	<table border="1" data-bbox="982 1041 1120 1131"> <tr> <td>اڪائي</td> <td>اڪائي</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>7</td> </tr> </table>	اڪائي	اڪائي	8	7
اڪائي	اڪائي						
8	7						

سوالات کو حل کریں اور ان کے جوابات کو ترتیب دیکر الفاظ سے ایک بامعنی جملہ بنائیں۔

$$11 - 6 = \underline{\quad} \bullet$$

سرحد

$$\begin{array}{r} 11 \\ - 8 \\ \hline \end{array}$$

گنم

$$\begin{array}{r} 10 \\ - 6 \\ \hline \end{array}$$

صوبہ

$$\begin{array}{r} 9 \\ - 3 \\ \hline \end{array}$$

کی

$$\begin{array}{r} 11 \\ - 4 \\ \hline \end{array}$$

اتم

$$\begin{array}{r} 11 \\ - 3 \\ \hline \end{array}$$

پیداوار

$$9 - 7 = \underline{\quad} \bullet$$

اور

$$10 - 9 = \underline{\quad} \bullet$$

گنا

$$10 - 1 = \underline{\quad} \bullet$$

ہے

جوابات


گنا	1 = 9 - 10
اور	2 = 7 - 9
گندم	3 = 8 - 11
صوبہ	4 = 6 - 10
سرحد	5 = 6 - 11
کی	6 = 3 - 9
اہم	7 = 4 - 11
پیداوار	8 = 3 - 11
ہے	9 = 1 - 10

جملہ :- گنا اور گندم صوبہ سرحد کی اہم پیداوار ہے۔


ترتیب وار عدد 1 2 3 4 5 6 7 8 9

دیئے گئے دائروں میں خالی جگہوں پر مناسب عدد لکھیں۔


1.




2.



3.



4.




کارڈ نمبر: 25


جماعت دوم

### جوابات


1.




2.



3.



4.



مندرجہ ذیل کو حل کریں۔

$$\textcircled{1} 1 + 3 = \square$$

$$\textcircled{2} 2 + 2 = \square$$

$$\textcircled{3} 3 + 3 = \square$$

$$\textcircled{4} 4 + 1 = \square$$

$$\textcircled{5} 6 + 3 = \square$$

$$\textcircled{6} 5 + 4 = \square$$

$$\textcircled{7} 8 + 1 = \square$$

$$\textcircled{8} 7 + 2 = \square$$

$$\textcircled{9} 9 + 2 = \square$$

$$\textcircled{10} 4 + 7 = \square$$

$$\textcircled{11} 5 + 6 = \square$$

$$\textcircled{12} 8 + 2 = \square$$

$$\textcircled{13} 1 + 3 + 5 = \square$$

$$\textcircled{14} 2 + 2 + 6 = \square$$

$$\textcircled{15} 3 + 3 + 7 = \square$$

$$\textcircled{16} 4 + 1 + 5 = \square$$

$$\textcircled{17} 6 + 3 + 3 = \square$$

$$\textcircled{18} 5 + 4 + 4 = \square$$

$$\textcircled{19} 8 + 1 + 3 = \square$$


$$\textcircled{20} 7 + 2 + 4 = \square$$

$$\textcircled{21} 9 + 2 + 5 = \square$$

$$\textcircled{22} 4 + 7 + 6 = \square$$

$$\textcircled{23} 5 + 6 + 7 = \square$$

$$\textcircled{24} 8 + 2 + 4 = \square$$




کارڈ نمبر: 27

جوابات

جماعت دوم










مندرجہ ذیل کو حل کریں۔

- |   |   |
|---|---|
| 1. $1 + 3 =$ <input type="text" value="4"/>   | 13. $1 + 3 + 5 =$ <input type="text" value="9"/>  |
| 2. $2 + 2 =$ <input type="text" value="4"/>   | 14. $2 + 2 + 6 =$ <input type="text" value="10"/> |
| 3. $3 + 3 =$ <input type="text" value="6"/>   | 15. $3 + 3 + 7 =$ <input type="text" value="13"/> |
| 4. $4 + 1 =$ <input type="text" value="5"/>   | 16. $4 + 1 + 5 =$ <input type="text" value="10"/> |
| 5. $6 + 3 =$ <input type="text" value="9"/>   | 17. $6 + 3 + 3 =$ <input type="text" value="12"/> |
| 6. $5 + 4 =$ <input type="text" value="9"/>   | 18. $5 + 4 + 4 =$ <input type="text" value="13"/> |
| 7. $8 + 1 =$ <input type="text" value="9"/>   | 19. $8 + 1 + 3 =$ <input type="text" value="12"/> |
| 8. $7 + 2 =$ <input type="text" value="9"/>   | 20. $7 + 2 + 4 =$ <input type="text" value="13"/> |
| 9. $9 + 2 =$ <input type="text" value="11"/>  | 21. $9 + 2 + 5 =$ <input type="text" value="16"/> |
| 10. $4 + 7 =$ <input type="text" value="11"/> | 22. $4 + 7 + 6 =$ <input type="text" value="17"/> |
| 11. $5 + 6 =$ <input type="text" value="11"/> | 23. $5 + 6 + 7 =$ <input type="text" value="18"/> |
| 12. $8 + 2 =$ <input type="text" value="10"/> | 24. $8 + 2 + 4 =$ <input type="text" value="14"/> |













تکون کے اعداد جمع کر کے جواب درمیان میں لکھیں۔




خالی جگہ کو اس طرح پُر کریں کہ حاصل جمع تکون میں دیئے گئے ہندسہ کے برابر آئے ہیں۔



کارڈ نمبر: 28


جماعت دوم

### جوابات




دیئے گئے دائروں میں خالی جگہوں پر مناسب عدد لکھیں۔


1.




2.



3.







4.



کارڈ نمبر: 29





جوابات

جماعت دوم



آپ ہر گھر میں مثال کی طرح کتنے اعداد لکھ سکتے ہیں۔

5	
$5 + 0 = 5$	$5 - 0 = 5$
$4 + 1 = 5$	$5 - 1 = 4$
$3 + 2 = 5$	$5 - 2 = 3$
$2 + 3 = 5$	$5 - 3 = 2$
$1 + 4 = 5$	$5 - 4 = 1$
$0 + 5 = 5$	$5 - 5 = 0$



ذرا غور کیجئے۔

آپ ہر گھر میں مثال کی طرح کتنے اعداد لکھ سکتے ہیں۔

5	
$5 + 0 = 5$	$5 - 0 = 5$
$4 + 1 = 5$	$5 - 1 = 4$
$3 + 2 = 5$	$5 - 2 = 3$
$2 + 3 = 5$	$5 - 3 = 2$
$1 + 4 = 5$	$5 - 4 = 1$
$0 + 5 = 5$	$5 - 5 = 0$

(1)

3	
$4 + 0 = 4$	$4 - 0 = 4$
$3 + 1 = 4$	$4 - 1 = 3$
$2 + 2 = 4$	$4 - 2 = 2$
$1 + 3 = 4$	$4 - 3 = 1$
$0 + 4 = 4$	$4 - 4 = 0$

(2)

4	
$3 + 0 = 3$	$3 - 0 = 3$
$2 + 1 = 3$	$3 - 1 = 2$
$1 + 2 = 3$	$3 - 2 = 1$
$0 + 3 = 3$	$3 - 3 = 0$

(3)












6	
$7 + 0 = 7$	$7 - 0 = 7$
$6 + 1 = 7$	$7 - 1 = 6$
$5 + 2 = 7$	$7 - 2 = 5$
$4 + 3 = 7$	$7 - 3 = 4$
$3 + 4 = 7$	$7 - 4 = 3$
$2 + 5 = 7$	$7 - 5 = 2$
$1 + 6 = 7$	$7 - 6 = 1$
$0 + 7 = 7$	$7 - 7 = 0$

(4)

7	
$6 + 0 = 6$	$6 - 0 = 6$
$5 + 1 = 6$	$6 - 1 = 5$
$4 + 2 = 6$	$6 - 2 = 4$
$3 + 3 = 6$	$6 - 3 = 3$
$2 + 4 = 6$	$6 - 4 = 2$
$1 + 5 = 6$	$6 - 5 = 1$
$0 + 6 = 6$	$6 - 6 = 0$

پتلوں پر دیئے گئے سوالات کو حل کریں اور ذرا دیکھیے کہ گتے پر جو نمبر لکھا ہے، اُس کی مناسبت سے اس گتے کا پتلے معلوم کریں۔

کون سے پتلے میرے ہیں؟



جوابات


سکھنے کے پتے یہ ہیں۔	12	(1)
نمبر 2	10	(2)
نمبر 3	10	(3)
نمبر 4	10	(4)
نمبر 5	10	(5)
نمبر 8	9	(6)
نمبر 10	12	(7)
	10	(8)
	9	(9)
	10	(10)
	11	(11)



ذرا غور سے

ہر پتے میں تین اعداد دیئے گئے ہیں ان میں جمع و تفریق کا عمل کچھ یوں کریں، جس سے جواب

انہیں ہندسوں میں ہماتے ہو۔




---

---

---

---




---

---


---

---

ذرا غور سے  
ہر پتے میں تین اعداد دیئے گئے ہیں ان میں جمع و تفریق کا عمل کچھ یوں کریں، جس سے جواب  
انہیں ہندسوں میں ہکا سے ہو۔




$$\begin{array}{r} 7 + 8 = 15 \\ 8 + 7 = 15 \\ 15 - 7 = 8 \\ 15 - 8 = 7 \end{array}$$




$$\begin{array}{r} 6 + 3 = 9 \\ 3 + 6 = 9 \\ 9 - 3 = 6 \\ 9 - 6 = 3 \end{array}$$

بھوٹے دائرے کی عدد سے درمیانے دائرے والے عدد کو منفی کر کے بڑے دائرے میں لکھیں


①




②




③




④



⑤









⑥




کارڈ نمبر: 33


جماعت دوم

جوابات



خالی جگہ میں ایسے اعداد لکھیں کہ دیا گیا جواب حاصل ہو پھر ان اعداد کو ترتیب دیکر ساتھ لکھے ہوئے الفاظ سے بامعنی جملہ بنائیں۔





جملہ:۔۔ پیچو ہمارے پیارے پیغمبر کا نام حضرت محمد ہے  
 ترتیباً اعداد: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10
11	12	13	14	15
16	17	18	19	20

دیئے گئے مربع میں اعداد کی ترتیب کو دیکھتے ہوئے نیچے دیئے گئے خانوں میں مناسب اعداد لکھیں۔

1. 

3	4	5
---	---	---

2. 

2	3
	8

3. 

16	

4. 

	14	

5. 

9	

6. 

	12

7. 

	9	

8. 

		15

9. 

	12	

10. 

4	

11. 

2	

12. 

17		

جوابات

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10
11	12	13	14	15
16	17	18	19	20

1. 

3	4	5
---	---	---

2. 

2	3
	8

3. 

11	
16	17

4. 

3	4	
	9	10
	14	15

5. 

9	10
14	15

6. 

1	
6	
	12
	17

7. 

	5
	9
13	

8. 

7			
	13	14	15
		19	

9. 

6	7	8
	12	13
		17

10. 

4	
	10
14	
	20







11. 

2	
7	
12	
17	18







12. 

2	3	
7	8	9
	13	14
17	18	



<p>(۲) دیئے گئے اعداد میں 5 جمع کر کے خالی جگہ میں لکھیں۔</p> <p>4    9    _____</p> <p>6    _____</p> <p>8    _____</p> 	<p>(۱) دیئے گئے اعداد میں سے 5 کم کر کے خالی جگہ میں لکھیں۔</p> <p>14    9    _____</p> <p>13    _____</p> <p>12    _____</p> 
<p>(4) اعداد میں 6 جمع کر کے لکھیں۔</p> <p>4    _____</p> <p>5    _____</p> <p>6    _____</p> 	<p>(3) اعداد میں سے 6 تفریق کر کے لکھیں۔</p> <p>14    _____</p> <p>13    _____</p> <p>12    _____</p> 
<p>(6) اعداد میں 7 جمع کر کے لکھیں۔</p> <p>3    _____</p> <p>5    _____</p> <p>7    _____</p> 	<p>(5) اعداد میں سے 7 تفریق کر کے لکھیں۔</p> <p>14    _____</p> <p>13    _____</p> <p>12    _____</p> 

جوابات

$\begin{array}{r} 4 \quad 9 \\ 6 \quad 11 \\ 8 \quad 13 \end{array}$ 	$\begin{array}{r} 14 \quad 9 \\ 13 \quad 8 \\ 12 \quad 7 \end{array}$ 
$\begin{array}{r} 4 \quad 10 \\ 5 \quad 11 \\ 6 \quad 12 \end{array}$ 	$\begin{array}{r} 14 \quad 6 \\ 13 \quad 7 \\ 12 \quad 6 \end{array}$ 
$\begin{array}{r} 3 \quad 10 \\ 5 \quad 12 \\ 7 \quad 14 \end{array}$ 	$\begin{array}{r} 14 \quad 7 \\ 13 \quad 6 \\ 12 \quad 5 \end{array}$ 

خالی جگہوں میں مناسب عدد لکھیں کہ جواب صحیح آئے۔

1. 
$$\begin{array}{r} 42 \\ + 38 \\ \hline \square 0 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 27 \\ + 3\square \\ \hline 60 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 2\square \\ + 19 \\ \hline 40 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 54 \\ + 2\square \\ \hline 80 \end{array}$$

2. 
$$\begin{array}{r} 28 \\ + 3\square \\ \hline 60 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 38 \\ + \square 2 \\ \hline 70 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 56 \\ + 2\square \\ \hline 80 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \square 2 \\ + 3\square \\ \hline 60 \end{array}$$

3.

$$\begin{array}{r} 7 \\ + 8 \\ \hline \square 15 \end{array}$$

$$\square + 10 = \square$$

$$\square + \square = 45$$

$$+ 10$$

$$\square + \square = 45$$

$$+ 10$$


$$\square - 10 = \square$$

$$- 10$$

$$\square - 10 = \square$$

$$- 10$$

$$\square + 8 = \square$$



1. 
$$\begin{array}{r} 42 \\ + 38 \\ \hline 80 \end{array}$$
 
$$\begin{array}{r} 27 \\ + 33 \\ \hline 60 \end{array}$$
 
$$\begin{array}{r} 21 \\ + 19 \\ \hline 40 \end{array}$$
 
$$\begin{array}{r} 54 \\ + 26 \\ \hline 80 \end{array}$$

2. 
$$\begin{array}{r} 28 \\ + 32 \\ \hline 60 \end{array}$$
 
$$\begin{array}{r} 38 \\ + 32 \\ \hline 70 \end{array}$$
 
$$\begin{array}{r} 56 \\ + 24 \\ \hline 80 \end{array}$$
 
$$\begin{array}{r} 22 \\ + 38 \\ \hline 60 \end{array}$$

3.

$$\begin{array}{r} 7 \\ + 8 \\ \hline 15 \end{array}$$

$$15 + 10 = 25$$

$$+ 10$$

$$10 + 35 = 45$$

$$+ 10$$


$$55 - 10 = 45$$

$$- 10$$

$$35 - 10 = 25$$

$$- 10$$

$$7 + 8 = 15$$



کیا آپ ہر سوال کا صحیح جواب بتا سکتے ہیں؟

(1)  $\begin{array}{c} \textcircled{2} + \textcircled{7} \\ \downarrow \\ \textcircled{\phantom{0}} + \textcircled{7} \\ \downarrow \\ \textcircled{\phantom{0}} \end{array}$

(2)  $\begin{array}{c} \textcircled{6} + \textcircled{3} \\ \downarrow \\ \textcircled{9} + \textcircled{6} \\ \downarrow \\ \textcircled{15} \end{array}$

(3)  $\begin{array}{c} \textcircled{4} + \textcircled{4} \\ \downarrow \\ \textcircled{\phantom{0}} + \textcircled{8} \\ \downarrow \\ \textcircled{\phantom{0}} \end{array}$


(4)  $\begin{array}{c} \textcircled{5} + \textcircled{2} \\ \downarrow \\ \textcircled{\phantom{0}} + \textcircled{9} \\ \downarrow \\ \textcircled{\phantom{0}} \end{array}$

(5)  $\begin{array}{c} \textcircled{5} + \textcircled{4} \\ \downarrow \\ \textcircled{\phantom{0}} + \textcircled{9} \\ \downarrow \\ \textcircled{\phantom{0}} \end{array}$

(6)  $\begin{array}{c} \textcircled{6} + \textcircled{3} \\ \downarrow \\ \textcircled{\phantom{0}} + \textcircled{8} \\ \downarrow \\ \textcircled{\phantom{0}} \end{array}$

(7)  $\begin{array}{c} \textcircled{7} + \textcircled{1} \\ \downarrow \\ \textcircled{\phantom{0}} + \textcircled{9} \\ \downarrow \\ \textcircled{\phantom{0}} \end{array}$

(8)  $\begin{array}{c} \textcircled{5} + \textcircled{3} \\ \downarrow \\ \textcircled{\phantom{0}} + \textcircled{7} \\ \downarrow \\ \textcircled{\phantom{0}} \end{array}$



خالی خاتوں میں ایسے اعداد لکھیں جن کو جمع کرنے سے مطلوبہ جواب حاصل ہو۔

1.

$\begin{array}{r} 9 \\ + \square \\ \hline 15 \end{array}$	$\begin{array}{r} 6 \\ + \square \\ \hline 11 \end{array}$	$\begin{array}{r} \square \\ + 2 \\ \hline 10 \end{array}$	$\begin{array}{r} \square \\ + 3 \\ \hline 8 \end{array}$	$\begin{array}{r} 7 \\ + \square \\ \hline 14 \end{array}$	$\begin{array}{r} 4 \\ + \square \\ \hline 13 \end{array}$
--	--	--	---	--	--

2.

$\begin{array}{r} \square \\ + 8 \\ \hline 12 \end{array}$	$\begin{array}{r} 9 \\ + \square \\ \hline 14 \end{array}$	$\begin{array}{r} \square \\ + 7 \\ \hline 15 \end{array}$	$\begin{array}{r} \square \\ + 8 \\ \hline 14 \end{array}$	$\begin{array}{r} 2 \\ + \square \\ \hline 9 \end{array}$	$\begin{array}{r} 8 \\ + \square \\ \hline 12 \end{array}$
--	--	--	--	---	--

3.

$\begin{array}{r} 7 \\ + \square \\ \hline 13 \end{array}$	$\begin{array}{r} 6 \\ + \square \\ \hline 15 \end{array}$	$\begin{array}{r} \square \\ + 7 \\ \hline 12 \end{array}$	$\begin{array}{r} 8 \\ + \square \\ \hline 13 \end{array}$	$\begin{array}{r} \square \\ + 6 \\ \hline 12 \end{array}$	$\begin{array}{r} \square \\ + 3 \\ \hline 11 \end{array}$
--	--	--	--	--	--

4.

$\begin{array}{r} 9 \\ + \square \\ \hline 12 \end{array}$	$\begin{array}{r} \square \\ + 7 \\ \hline 11 \end{array}$	$\begin{array}{r} 5 \\ + \square \\ \hline 13 \end{array}$	$\begin{array}{r} 9 \\ + \square \\ \hline 11 \end{array}$	$\begin{array}{r} \square \\ + 6 \\ \hline 14 \end{array}$	$\begin{array}{r} 7 \\ + \square \\ \hline 15 \end{array}$
--	--	--	--	--	--

جوابات

1.  $\frac{9}{+6} \frac{6}{+5} \frac{8}{+2} \frac{5}{+3} \frac{7}{+7} \frac{4}{+9}$


2.  $\frac{4}{+8} \frac{9}{+5} \frac{8}{+7} \frac{6}{+8} \frac{2}{+7} \frac{8}{+4}$

3.  $\frac{7}{+6} \frac{6}{+9} \frac{5}{+7} \frac{8}{+5} \frac{6}{+6} \frac{8}{+3}$

4.  $\frac{9}{+3} \frac{4}{+7} \frac{5}{+8} \frac{9}{+2} \frac{8}{+6} \frac{7}{+8}$




دیئے گئے اعداد کو جمع و تفریق کر کے زنجیر مکمل کریں۔









کارڈ نمبر: 40

جماعت دوم

جوابات









اعداد کو افقی اور عمودی سمت میں جمع کریں اور جوابات کو آپس میں جمع کریں دیکھیں کہ جواب ایک ہی آتا ہے۔









کارڈ نمبر: 41

جماعت دوم

جوابات









ترتیب کو برقرار رکھتے ہوئے مکمل کریں۔



کارڈ نمبر: 42

## جوابات


جماعت دوم

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

”طلسماتی مربع“

مثال

1	6	5	→ 12
8	4	0	→ 12
3	2	7	→ 12
↓	↓	↓	
12	12	12	



مندرجہ بالا مثال کی روشنی میں جسے ۱۰ تک اعداد ایک ہی مرتبہ استعمال کرتے ہوئے۔

مربع مکمل کریں جب کہ ہر سمت میں جمع کرنے سے جواب ۱۸ ہی آئے۔

3		7
	6	
		9

کارڈ نمبر: 43

جوابات

جماعت دوم

مثال

"طلسماتی مربع"

1	6	5	-12
8	4	0	-12
3	2	7	-12
12	12	12	



مندرجہ بالا مثال کی روشنی میں 2 سے 10 تک ایسا ایک ہی مرتبہ استعمال کرتے ہوئے۔











مربع مکمل کریں جب کہ ہر سمت میں جمع کرنے سے جواب 18 ہی آئے۔

3	8	7
10	6	2
5	4	9



جن اعداد کو جمع کرنے سے جواب دایا آتا ہے وہ سٹ اگ اگ کر کے جوابات کے

مطابق نیچے لکھیں۔




---



---



---



---



---



---




---




---


جوابات


 $5 + 5$


 $3 + 8$

 $6 + 4$

 $5 + 6$

 $8 + 2$

 $3 + 7$

 $9 + 2$

 $7 + 4$

10

11

$6 + 2$

$3 + 8$

$5 + 5$

$5 + 6$

$6 + 4$

$9 + 2$

$3 + 7$

$7 + 4$

نیچے دی گئی مثال کی روشنی میں افقی اور عمودی جمع کر کے دیکھیں کہ آیا آپ کا دونوں طرف سے مشترکہ جواب صحیح ہے۔

(1)

4	1	5
3	2	5
7	3	

(2)

1	2	3
3	4	7
4	6	10

(3)

0	3	
2	1	

(4)

4	2	
1	1	

(5)

3	3	
0	3	

(6)

1	2	
3	2	

(7)

1	0	
0	3	

(8)

1	3	
2	4	

(9)

2	4	
0	2	

(10)

1	1	
1	1	

(11)

2	2	
2	2	

نیچے دی گئی مثال کی روشنی میں افقی اور عمودی جمع کر کے دیکھیں کہ آیا آپ کا دونوں طرف سے  
مشترکہ جواب صحیح ہے۔

(1)

4	1	5
3	2	5
7	3	10

(2)

1	2	3
3	4	7
4	6	10

(3)

0	3	3
2	1	3
2	4	6

(4)

4	2	6
1	1	2
5	3	8

(5)

3	3	6
0	3	3
3	6	9

(6)

1	2	3
3	2	5
4	4	8

(7)

1	0	1
0	3	3
1	3	4

(8)

1	3	4
2	4	6
3	7	10

(9)

2	4	6
0	2	2
2	6	8







(10)

1	1	2
1	1	2
2	2	4







(11)

2	2	4
2	2	4
4	4	8

خالی جگہوں میں مناسب اعداد لکھ کر سوالات مکمل کریں دیکھئے کہ مربع میں جمع یا منفی کا نشان لگایا ہے۔  
دیئے گئے جمع و منفی کا سوالات حل کریں۔

<p>1.</p>  <p>1- باقی کتنی بچیں؟</p> <p>5 <input type="text"/> - 1 = <input type="text"/></p>	<p>2.</p>  <p>(2) تصویروں کو دیکھیں باقی کتنی بچیں</p> <p>6 <input type="text"/> = <input type="text"/></p>
<p>3.</p>  <p>(3) کل کتنے ہو گئے؟</p> <p>3 <input type="text"/> = <input type="text"/></p>	<p>4.</p>  <p>(4) باقی کتنی بچیں؟</p> <p>4 <input type="text"/> = <input type="text"/></p>
<p>5.</p>  <p>(5) کل کتنے ہو گئے؟</p> <p>3 <input type="text"/> = <input type="text"/></p>	<p>6.</p>  <p>(6) باقی کتنی بچیں؟</p> <p>7 <input type="text"/> = <input type="text"/></p>

خالی جگہوں میں مناسب اعداد لکھ کر سوالات مکمل کریں۔  
 مربع میں جمع یا منفی کا نشان لگائیں۔  
 دئے گئے جمع منفی کا سوالات حل کریں۔

<p>1. </p> <p>(1) باقی کتنی بچیں؟</p> <p>5 <input type="text"/> - 1 = 4</p>	<p>2. </p> <p>(2) تصویروں کو دیکھیں باقی کتنی بچیں؟</p> <p>6 <input type="text"/> - 2 = 4</p>
<p>3. </p> <p>(3) کل کتنے ہو گئے؟</p> <p>3 <input type="text"/> + 4 = 7</p>	<p>4. </p> <p>(4) باقی کتنی بچیں؟</p> <p>4 <input type="text"/> - 1 = 3</p>
<p>5. </p> <p>(5) کل کتنے ہو گئے؟</p> <p>3 <input type="text"/> + 3 = 6</p>	<p>6. </p> <p>(6) باقی کتنی بچیں؟</p> <p>7 <input type="text"/> - 2 = 5</p>

۱۰، ۱۰ کی گنتی کر کے خالی جگہیں پُر کریں۔

50

70

90

20


10



کارڈ نمبر: 47

جماعت دوم

جوابات



60	10
70	20
80	30
90	40
	50





ذرا سوچ کر

دیئے گئے تقابیر کی مدد سے سامنے مزاج کے خالوں میں اعداد اور دائروں میں جمع یا منفی کے نشان کو لکھ کر سوالات حل کریں۔ اور ان کے جوابات کو ترتیب وار لکھ کر ایک جملہ بنائیں۔



تیسرے عدد کیلئے: دِن دوسرے عدد کیلئے: کونسا سب سے بڑے عدد کیلئے: تھا سب سے چھوٹا عدد کیلئے: کل

1.





	<input type="checkbox"/>
<input type="circle"/>	<input type="checkbox"/>
<hr/>	
	<input type="checkbox"/>

2.





	<input type="checkbox"/>
<input type="circle"/>	<input type="checkbox"/>
<hr/>	
	<input type="checkbox"/>

3.



	<input type="checkbox"/>
<input type="circle"/>	<input type="checkbox"/>
<hr/>	
	<input type="checkbox"/>

4.











	<input type="checkbox"/>
<input type="circle"/>	<input type="checkbox"/>
<hr/>	
	<input type="checkbox"/>

درا سچ کر

دیئے گئے تقادیر کی مدد سے سامنے مزاحم کے خانوں میں اعداد اور دائروں میں جمع یا منہج کے نشان کو لکھ کر سوالات حل کریں۔  
اور ان کے جوابات کو ترتیب وار لکھ کر ایک جملہ بنائیں۔

تیسرے عدد کیلئے = دن دوسرے عدد کیلئے = کونسا سب سے بڑے عدد کیلئے = تھا سب سے چھوٹا عدد کیلئے = کل

1.			$\begin{array}{r} 9 \\ - 6 \\ \hline 3 \end{array}$
2.			$\begin{array}{r} 8 \\ - 4 \\ \hline 4 \end{array}$
3.			$\begin{array}{r} 4 \\ + 2 \\ \hline 6 \end{array}$
4.			$\begin{array}{r} 9 \\ - 4 \\ \hline 5 \end{array}$

پمچھلی کئے پریٹ میں دو ایسے اعداد لکھیں جن کا جواب 40 آتا ہو۔

$40 + 0$	$39 + 1$	$38 + 2$	$37 + 3$
$36 + \underline{\quad}$	$\underline{\quad} + \underline{\quad}$	$\underline{\quad} + \underline{\quad}$	$\underline{\quad} + \underline{\quad}$
$\underline{\quad} + \underline{\quad}$	$\underline{\quad} + \underline{\quad}$	$\underline{\quad} + \underline{\quad}$	$\underline{\quad} + \underline{\quad}$
$\underline{\quad} + \underline{\quad}$	$\underline{\quad} + \underline{\quad}$	$\underline{\quad} + \underline{\quad}$	$\underline{\quad} + \underline{\quad}$
$\underline{\quad} + \underline{\quad}$	$\underline{\quad} + \underline{\quad}$	$\underline{\quad} + \underline{\quad}$	$\underline{\quad} + \underline{\quad}$
$\underline{\quad} + \underline{\quad}$	$\underline{\quad} + \underline{\quad}$	$\underline{\quad} + \underline{\quad}$	$\underline{\quad} + \underline{\quad}$
$\underline{\quad} + \underline{\quad}$	$\underline{\quad} + \underline{\quad}$	$\underline{\quad} + \underline{\quad}$	$\underline{\quad} + \underline{\quad}$
$\underline{\quad} + \underline{\quad}$	$\underline{\quad} + \underline{\quad}$	$\underline{\quad} + \underline{\quad}$	$\underline{\quad} + \underline{\quad}$
$\underline{\quad} + 36$	$\underline{\quad} + 37$	$\underline{\quad} + 38$	$1 + 39$


پمٹلی کے پمٹ میں دو ایسے اعداد لکھیں جن کا جواب 40 آتا ہو۔

$40 + 0$	$39 + 1$	$38 + 2$	$37 + 3$
$36 + 4$	$35 + 5$	$34 + 6$	$33 + 7$
$32 + 8$	$31 + 9$	$30 + 10$	$29 + 11$
$28 + 12$	$27 + 13$	$26 + 14$	$25 + 15$
$24 + 16$	$23 + 17$	$22 + 18$	$21 + 19$
$20 + 20$	$17 + 23$	$18 + 22$	$19 + 21$
$16 + 24$	$13 + 27$	$14 + 26$	$15 + 25$
$12 + 28$	$9 + 31$	$10 + 30$	$11 + 29$
$8 + 32$	$5 + 35$	$6 + 34$	$7 + 33$
$4 + 36$	$3 + 37$	$2 + 38$	$1 + 39$


دیئے گئے اعداد کے درمیانی وقفے کو مد نظر رکھ کر اگلے مرحلے تکمیل کریں۔

درمیانی وقفے کو دی گئی مثال کی طرح گاڑی میں اعداد لکھ کر واضح کریں۔


1. 15    18    21    24    27    30




2. 19    25    31    37    \_\_\_\_\_




3. 26    24    22    20    \_\_\_\_\_




4. 42    47    52    57    \_\_\_\_\_




5. 55    50    45    40    \_\_\_\_\_




6. 16    25    34    43    \_\_\_\_\_



7. 46    53    60    67    \_\_\_\_\_




8. 33    30    27    24    \_\_\_\_\_




جوابات


1. 15 18 21 24 27 30




2. 19 25 31 37 43 49



3. 26 24 22 20 18 16




4. 42 47 52 57 62 67




5. 55 50 45 40 35 30




6. 16 25 34 43 52 61



7. 46 53 60 67 74 81



8. 33 30 27 24 21 18



کارڈ نمبر: ۱۰

جماعت سوم

حل کریں

475 <u>315 +</u>	449 <u>249 +</u>	428 <u>158 +</u>	346 <u>237 +</u>	237 <u>124 +</u>
884 <u>109 +</u>	703 <u>289 +</u>	605 <u>307 +</u>	604 <u>327 +</u>	578 <u>305 +</u>
777 <u>169 +</u>	571 <u>159 +</u>	345 <u>256 +</u>	788 <u>203 +</u>	753 <u>237 +</u>
462 <u>435 +</u>	630 <u>225 +</u>	521 <u>470 +</u>	234 <u>222 +</u>	321 <u>112 +</u>
800 <u>199 +</u>	537 <u>402 +</u>	426 <u>501 +</u>	379 <u>620 +</u>	710 <u>280 +</u>
905 <u>82 +</u>	900 <u>70 +</u>	890 <u>104 +</u>	807 <u>140 +</u>	709 <u>210 +</u>

کارڈ نمبر: 1

جماعت سوم

جوابات

475 315 + <hr/> 790	449 249 + <hr/> 698	428 158 + <hr/> 586	346 237 + <hr/> 583	237 124 + <hr/> 361
884 109 + <hr/> 993	703 289 + <hr/> 992	605 307 + <hr/> 912	604 327 + <hr/> 931	578 305 + <hr/> 883
777 169 + <hr/> 946	571 159 + <hr/> 730	345 256 + <hr/> 601	788 203 + <hr/> 991	753 237 + <hr/> 990
462 435 + <hr/> 897	630 225 + <hr/> 855	521 470 + <hr/> 991	234 222 + <hr/> 456	321 112 + <hr/> 433
800 199 + <hr/> 999	537 402 + <hr/> 939	426 501 + <hr/> 927	379 620 + <hr/> 999	710 280 + <hr/> 990
905 82 + <hr/> 987	900 70 + <hr/> 970	890 104 + <hr/> 994	807 140 + <hr/> 947	709 210 + <hr/> 919



کارڈ نمبر: 2

جماعت سوم

حل کریں

531 62 6 + <hr/>	455 13 24 + <hr/>	327 121 21 + <hr/>	234 30 6 + <hr/>	123 32 4 + <hr/>
345 120 102 + <hr/>	500 300 100 + <hr/>	279 110 410 + <hr/>	222 333 444 + <hr/>	123 231 132 + <hr/>
333 333 333 + <hr/>	400 209 307 + <hr/>	421 125 107 + <hr/>	401 200 380 + <hr/>	467 210 202 + <hr/>
400 266 179 + <hr/>	312 149 253 + <hr/>	134 222 444 + <hr/>	222 233 455 + <hr/>	123 234 345 + <hr/>

کارڈ نمبر: 2

جماعت سوم

جوابات

531 62 6 + <hr/> 599	455 13 24 + <hr/> 492	327 121 21 + <hr/> 469	234 30 6 + <hr/> 270	123 32 4 + <hr/> 159
345 120 102 + <hr/> 567	500 300 100 + <hr/> 900	279 110 410 + <hr/> 799	222 333 444 + <hr/> 999	123 231 132 + <hr/> 486
333 333 333 + <hr/> 999	400 209 307 + <hr/> 916	421 125 107 + <hr/> 653	401 200 380 + <hr/> 981	467 210 202 + <hr/> 879
400 266 179 + <hr/> 845	312 149 253 + <hr/> 714	134 222 444 + <hr/> 800	222 233 455 + <hr/> 910	123 234 345 + <hr/> 702

1) 967  
754 —

2) 847  
345 —

3) 437  
315 —

4) 6948  
5726 —

5) 8657  
6524 —

6) 748  
635 —

7) 9768  
4517 —

8) 7678  
5314 —

9) 8435  
7304 —

10) 867  
479 —

11) 7563  
6789 —

12) 6413  
4387 —

13) 745  
598 —

14) 607  
368 —

15) 965  
786 —

16) 9647  
7968 —

17) 8712  
6543 —

18) 6175  
4264 —

کارڈ نمبر: 3

جماعت سوم

جوابات

$$\begin{array}{r} \textcircled{1} \quad 967 \\ 754 \text{ —} \\ \hline 213 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \textcircled{2} \quad 847 \\ 345 \text{ —} \\ \hline 502 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \textcircled{3} \quad 437 \\ 315 \text{ —} \\ \hline 122 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \textcircled{4} \quad 6948 \\ 5726 \text{ —} \\ \hline 1222 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \textcircled{5} \quad 8657 \\ 6524 \text{ —} \\ \hline 2133 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \textcircled{6} \quad 748 \\ 635 \text{ —} \\ \hline 113 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \textcircled{7} \quad 9768 \\ 4517 \text{ —} \\ \hline 525 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \textcircled{8} \quad 7678 \\ 5314 \text{ —} \\ \hline 2364 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \textcircled{9} \quad 8435 \\ 7304 \text{ —} \\ \hline 1131 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \textcircled{10} \quad 867 \\ 479 \text{ —} \\ \hline 388 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \textcircled{11} \quad 7563 \\ 6789 \text{ —} \\ \hline 774 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \textcircled{12} \quad 6413 \\ 4387 \text{ —} \\ \hline 2026 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \textcircled{13} \quad 745 \\ 598 \text{ —} \\ \hline 147 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \textcircled{14} \quad 607 \\ 368 \text{ —} \\ \hline 239 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \textcircled{15} \quad 965 \\ 786 \text{ —} \\ \hline 179 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \textcircled{16} \quad 9647 \\ 7968 \text{ —} \\ \hline 1679 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \textcircled{17} \quad 8712 \\ 6543 \text{ —} \\ \hline 2169 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \textcircled{18} \quad 6175 \\ 4264 \text{ —} \\ \hline 1911 \end{array}$$

حل کریں۔

$$17 + 21 = \underline{\quad\quad} \quad 25 + 22 = \underline{\quad\quad} \quad 21 + 28 = \underline{\quad\quad}$$

$$21 + 17 = \underline{\quad\quad} \quad 21 + 14 = \underline{\quad\quad} \quad 36 + 13 = \underline{\quad\quad}$$

$$18 + 24 = \underline{\quad\quad} \quad 28 + 20 = \underline{\quad\quad} \quad 30 + 16 = \underline{\quad\quad}$$

$$345 + 428 = \underline{\quad\quad} \quad 604 + 327 = \underline{\quad\quad} \quad 401 + 200 = \underline{\quad\quad}$$

$$400 + 209 = \underline{\quad\quad} \quad 134 + 222 = \underline{\quad\quad} \quad 312 + 149 = \underline{\quad\quad}$$

$$605 + 307 = \underline{\quad\quad} \quad 125 + 321 = \underline{\quad\quad} \quad 435 + 197 = \underline{\quad\quad}$$

$$617 + 219 = \underline{\quad\quad} \quad 333 + 266 = \underline{\quad\quad} \quad 362 + 551 = \underline{\quad\quad}$$

$$453 + 374 = \underline{\quad\quad} \quad 910 + 132 = \underline{\quad\quad} \quad 320 + 337 = \underline{\quad\quad}$$

$$102 + 100 = \underline{\quad\quad} \quad 175 + 193 = \underline{\quad\quad} \quad 120 + 102 = \underline{\quad\quad}$$

کارڈ نمبر: 4

جماعت سوم

جوابات

$$17 + 21 = 38 \quad 25 + 22 = 47 \quad 21 + 28 = 49$$

$$21 + 17 = 38 \quad 21 + 14 = 35 \quad 36 + 13 = 49$$

$$18 + 24 = 42 \quad 28 + 20 = 48 \quad 30 + 16 = 46$$

$$345 + 428 = 773 \quad 604 + 327 = 931 \quad 401 + 200 = 601$$

$$400 + 209 = 609 \quad 134 + 222 = 356 \quad 312 + 149 = 461$$

$$605 + 307 = 912 \quad 125 + 321 = 446 \quad 435 + 197 = 632$$

$$617 + 219 = 836 \quad 333 + 266 = 599 \quad 362 + 551 = 913$$

$$453 + 374 = 827 \quad 910 + 132 = 1042 \quad 320 + 337 = 657$$

$$102 + 100 = 202 \quad 175 + 193 = 368 \quad 120 + 102 = 222$$

کارڈ نمبر: 5

جماعت سوم

حل کریں

$$5-2 = \underline{\quad\quad} \quad 7-3 = \underline{\quad\quad} \quad 6-1 = \underline{\quad\quad}$$

$$9-3 = \underline{\quad\quad} \quad 6-0 = \underline{\quad\quad} \quad 8-2 = \underline{\quad\quad}$$

$$18-6 = \underline{\quad\quad} \quad 25-4 = \underline{\quad\quad} \quad 36-3 = \underline{\quad\quad}$$

$$27-7 = \underline{\quad\quad} \quad 25-8 = \underline{\quad\quad} \quad 23-16 = \underline{\quad\quad}$$

$$38-9 = \underline{\quad\quad} \quad 36-19 = \underline{\quad\quad} \quad 33-14 = \underline{\quad\quad}$$

$$51-25 = \underline{\quad\quad} \quad 50-25 = \underline{\quad\quad} \quad 52-27 = \underline{\quad\quad}$$

$$70-35 = \underline{\quad\quad} \quad 67-49 = \underline{\quad\quad} \quad 71-22 = \underline{\quad\quad}$$

$$73-68 = \underline{\quad\quad} \quad 54-48 = \underline{\quad\quad} \quad 44-29 = \underline{\quad\quad}$$

$$66-28 = \underline{\quad\quad} \quad 70-69 = \underline{\quad\quad} \quad 71-45 = \underline{\quad\quad}$$

کارڈ نمبر: 5

جماعت سوم

جوابات

$$5-2 = \underline{3} \quad 7-3 = \underline{4} \quad 6-1 = \underline{5}$$

$$9-3 = \underline{6} \quad 6-0 = \underline{6} \quad 8-2 = \underline{6}$$

$$18-6 = \underline{12} \quad 25-4 = \underline{21} \quad 36-3 = \underline{33}$$

$$27-7 = \underline{20} \quad 25-8 = \underline{17} \quad 23-16 = \underline{7}$$

$$38-9 = \underline{29} \quad 36-19 = \underline{17} \quad 33-14 = \underline{19}$$

$$51-25 = \underline{26} \quad 50-25 = \underline{25} \quad 52-27 = \underline{25}$$

$$70-35 = \underline{35} \quad 67-49 = \underline{18} \quad 71-22 = \underline{49}$$

$$73-68 = \underline{5} \quad 54-48 = \underline{6} \quad 44-29 = \underline{15}$$

$$66-28 = \underline{38} \quad 70-69 = \underline{1} \quad 71-45 = \underline{26}$$



کارڈ نمبر: 6

جماعت سوم

حل کریں

$$\begin{array}{r} 4 \\ \times 4 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 3 \\ \times 3 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 0 \\ \times 4 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 6 \\ \times 3 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 0 \\ \times 1 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 8 \\ \times 1 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1 \\ \times 4 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 5 \\ \times 0 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 2 \\ \times 2 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 3 \\ \times 1 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 9 \\ \times 3 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 7 \\ \times 3 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 8 \\ \times 4 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 5 \\ \times 1 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 2 \\ \times 4 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 9 \\ \times 1 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 4 \\ \times 1 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1 \\ \times 5 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 9 \\ \times 5 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 7 \\ \times 4 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 2 \\ \times 5 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 7 \\ \times 1 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 6 \\ \times 2 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 3 \\ \times 3 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 7 \\ \times 2 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 0 \\ \times 1 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 6 \\ \times 5 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 4 \\ \times 2 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 7 \\ \times 4 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 4 \\ \times 3 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 8 \\ \times 5 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 6 \\ \times 4 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 3 \\ \times 2 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 0 \\ \times 5 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 5 \\ \times 5 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 2 \\ \times 1 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 7 \\ \times 5 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 0 \\ \times 5 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 3 \\ \times 3 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 9 \\ \times 4 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 7 \\ \times 3 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 2 \\ \times 9 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 8 \\ \times 2 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 4 \\ \times 2 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 8 \\ \times 1 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 5 \\ \times 2 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1 \\ \times 1 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 3 \\ \times 1 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1 \\ \times 3 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 4 \\ \times 5 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 6 \\ \times 4 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 5 \\ \times 3 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 4 \\ \times 5 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 8 \\ \times 3 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 6 \\ \times 3 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 3 \\ \times 2 \\ \hline \end{array}$$

کارڈ نمبر: 6

جماعت سوم

جوابات

$$\begin{array}{r} 4 \\ \times 4 \\ \hline 16 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 3 \\ \times 3 \\ \hline 9 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 0 \\ \times 4 \\ \hline 0 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 6 \\ \times 3 \\ \hline 18 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 0 \\ \times 1 \\ \hline 0 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 8 \\ \times 1 \\ \hline 8 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1 \\ \times 4 \\ \hline 4 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 5 \\ \times 0 \\ \hline 0 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 2 \\ \times 2 \\ \hline 4 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 3 \\ \times 1 \\ \hline 3 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 9 \\ \times 3 \\ \hline 27 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 7 \\ \times 3 \\ \hline 21 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 8 \\ \times 4 \\ \hline 32 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 5 \\ \times 1 \\ \hline 5 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 2 \\ \times 4 \\ \hline 8 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 9 \\ \times 1 \\ \hline 9 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 4 \\ \times 1 \\ \hline 4 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1 \\ \times 5 \\ \hline 5 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 9 \\ \times 5 \\ \hline 45 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 7 \\ \times 4 \\ \hline 28 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 2 \\ \times 5 \\ \hline 10 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 7 \\ \times 1 \\ \hline 7 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 6 \\ \times 2 \\ \hline 12 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 3 \\ \times 3 \\ \hline 9 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 7 \\ \times 2 \\ \hline 14 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 0 \\ \times 1 \\ \hline 0 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 6 \\ \times 5 \\ \hline 30 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 4 \\ \times 2 \\ \hline 8 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 7 \\ \times 4 \\ \hline 28 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 4 \\ \times 3 \\ \hline 12 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 8 \\ \times 5 \\ \hline 40 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 6 \\ \times 4 \\ \hline 24 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 3 \\ \times 2 \\ \hline 6 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 0 \\ \times 5 \\ \hline 0 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 5 \\ \times 5 \\ \hline 25 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 2 \\ \times 1 \\ \hline 2 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 7 \\ \times 5 \\ \hline 35 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 0 \\ \times 5 \\ \hline 0 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 3 \\ \times 3 \\ \hline 9 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 9 \\ \times 4 \\ \hline 36 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 7 \\ \times 3 \\ \hline 21 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 2 \\ \times 9 \\ \hline 18 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 8 \\ \times 2 \\ \hline 16 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 4 \\ \times 2 \\ \hline 8 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 8 \\ \times 1 \\ \hline 8 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 5 \\ \times 2 \\ \hline 10 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1 \\ \times 1 \\ \hline 1 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 3 \\ \times 1 \\ \hline 3 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1 \\ \times 3 \\ \hline 3 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 4 \\ \times 5 \\ \hline 20 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 6 \\ \times 4 \\ \hline 24 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 5 \\ \times 3 \\ \hline 15 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 4 \\ \times 5 \\ \hline 20 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 8 \\ \times 3 \\ \hline 24 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 6 \\ \times 3 \\ \hline 18 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 3 \\ \times 2 \\ \hline 6 \end{array}$$

کار و پنجره 7

جماعت سوم

$$\begin{array}{r} 4 \\ \times 1 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 5 \\ \times 7 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 5 \\ \times 5 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 4 \\ \times 12 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1 \\ \times 4 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 9 \\ \times 5 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 6 \\ \times 5 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 2 \\ \times 4 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 4 \\ \times 2 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 4 \\ \times 11 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 5 \\ \times 6 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 12 \\ \times 4 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 4 \\ \times 3 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 5 \\ \times 8 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 4 \\ \times 10 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1 \\ \times 5 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 3 \\ \times 4 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 5 \\ \times 12 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 5 \\ \times 5 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 5 \\ \times 11 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 5 \\ \times 1 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 4 \\ \times 5 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 4 \\ \times 4 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 3 \\ \times 5 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 2 \\ \times 5 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 5 \\ \times 10 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 7 \\ \times 5 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 8 \\ \times 5 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 5 \\ \times 4 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 4 \\ \times 9 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 5 \\ \times 2 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 6 \\ \times 4 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 5 \\ \times 3 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 4 \\ \times 8 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 10 \\ \times 5 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 8 \\ \times 4 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 5 \\ \times 4 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 11 \\ \times 5 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 5 \\ \times 9 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 7 \\ \times 4 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 12 \\ \times 5 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 4 \\ \times 7 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 9 \\ \times 4 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 4 \\ \times 5 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 9 \\ \times 5 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 7 \\ \times 5 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 10 \\ \times 4 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 4 \\ \times 6 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 6 \\ \times 5 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 11 \\ \times 4 \\ \hline \end{array}$$

کارڈ نمبر: 7

جماعت چہارم

## جوابات

$$\begin{array}{r} 4 \\ \times 1 \\ \hline 4 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 5 \\ \times 7 \\ \hline 35 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 5 \\ \times 5 \\ \hline 25 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 4 \\ \times 12 \\ \hline 48 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1 \\ \times 4 \\ \hline 4 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 9 \\ \times 5 \\ \hline 45 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 6 \\ \times 5 \\ \hline 30 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 2 \\ \times 4 \\ \hline 8 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 4 \\ \times 2 \\ \hline 8 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 4 \\ \times 11 \\ \hline 44 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 5 \\ \times 6 \\ \hline 30 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 12 \\ \times 4 \\ \hline 48 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 4 \\ \times 3 \\ \hline 12 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 5 \\ \times 8 \\ \hline 40 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 4 \\ \times 10 \\ \hline 40 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1 \\ \times 5 \\ \hline 5 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 3 \\ \times 4 \\ \hline 12 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 5 \\ \times 12 \\ \hline 60 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 5 \\ \times 5 \\ \hline 25 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 5 \\ \times 11 \\ \hline 55 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 5 \\ \times 1 \\ \hline 5 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 4 \\ \times 5 \\ \hline 20 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 4 \\ \times 4 \\ \hline 16 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 3 \\ \times 5 \\ \hline 15 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 2 \\ \times 5 \\ \hline 10 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 5 \\ \times 10 \\ \hline 50 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 7 \\ \times 5 \\ \hline 35 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 8 \\ \times 5 \\ \hline 40 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 5 \\ \times 4 \\ \hline 20 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 4 \\ \times 9 \\ \hline 36 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 5 \\ \times 2 \\ \hline 10 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 6 \\ \times 4 \\ \hline 24 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 5 \\ \times 3 \\ \hline 15 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 4 \\ \times 8 \\ \hline 32 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 10 \\ \times 5 \\ \hline 50 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 8 \\ \times 4 \\ \hline 32 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 5 \\ \times 4 \\ \hline 20 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 11 \\ \times 5 \\ \hline 55 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 5 \\ \times 9 \\ \hline 45 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 7 \\ \times 4 \\ \hline 28 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 12 \\ \times 5 \\ \hline 60 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 4 \\ \times 7 \\ \hline 28 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 9 \\ \times 4 \\ \hline 36 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 4 \\ \times 5 \\ \hline 20 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 9 \\ \times 5 \\ \hline 45 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 7 \\ \times 5 \\ \hline 35 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 10 \\ \times 4 \\ \hline 40 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 4 \\ \times 6 \\ \hline 24 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 6 \\ \times 5 \\ \hline 30 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 11 \\ \times 4 \\ \hline 44 \end{array}$$

حل کریں

$$\begin{array}{r} 8 \\ \times 2 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1 \\ \times 3 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 7 \\ \times 2 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 2 \\ \times 10 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1 \\ \times 2 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 3 \\ \times 12 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 12 \\ \times 2 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 3 \\ \times 11 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 3 \\ \times 10 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 10 \\ \times 3 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 2 \\ \times 6 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 8 \\ \times 3 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 2 \\ \times 1 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 7 \\ \times 3 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 2 \\ \times 7 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 9 \\ \times 3 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 4 \\ \times 2 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 3 \\ \times 2 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 3 \\ \times 9 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 3 \\ \times 2 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 6 \\ \times 3 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 2 \\ \times 3 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 3 \\ \times 3 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 2 \\ \times 2 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 9 \\ \times 2 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 2 \\ \times 11 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 3 \\ \times 7 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 3 \\ \times 8 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 2 \\ \times 3 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 11 \\ \times 2 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 10 \\ \times 2 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 2 \\ \times 5 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 6 \\ \times 3 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 2 \\ \times 4 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 5 \\ \times 3 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 3 \\ \times 4 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 3 \\ \times 5 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 2 \\ \times 12 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 3 \\ \times 6 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 7 \\ \times 3 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 4 \\ \times 3 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 6 \\ \times 2 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 11 \\ \times 3 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 2 \\ \times 8 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 5 \\ \times 2 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 8 \\ \times 3 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 2 \\ \times 9 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 12 \\ \times 3 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 3 \\ \times 3 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 3 \\ \times 1 \\ \hline \end{array}$$

کارڈ نمبر: 8

جماعت سوم

جوابات

$$\begin{array}{r} 8 \\ \times 2 \\ \hline 16 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1 \\ \times 3 \\ \hline 3 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 7 \\ \times 2 \\ \hline 14 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 2 \\ \times 10 \\ \hline 20 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1 \\ \times 2 \\ \hline 2 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 3 \\ \times 12 \\ \hline 36 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 12 \\ \times 2 \\ \hline 24 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 3 \\ \times 11 \\ \hline 33 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 3 \\ \times 10 \\ \hline 30 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 10 \\ \times 3 \\ \hline 30 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 2 \\ \times 6 \\ \hline 12 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 8 \\ \times 3 \\ \hline 24 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 2 \\ \times 1 \\ \hline 2 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 7 \\ \times 3 \\ \hline 21 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 2 \\ \times 7 \\ \hline 14 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 9 \\ \times 3 \\ \hline 27 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 4 \\ \times 2 \\ \hline 8 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 3 \\ \times 2 \\ \hline 6 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 3 \\ \times 9 \\ \hline 27 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 3 \\ \times 2 \\ \hline 6 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 6 \\ \times 3 \\ \hline 18 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 2 \\ \times 3 \\ \hline 6 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 3 \\ \times 3 \\ \hline 9 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 2 \\ \times 2 \\ \hline 4 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 9 \\ \times 2 \\ \hline 18 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 2 \\ \times 11 \\ \hline 22 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 3 \\ \times 7 \\ \hline 21 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 3 \\ \times 8 \\ \hline 24 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 2 \\ \times 3 \\ \hline 6 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 11 \\ \times 2 \\ \hline 22 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 10 \\ \times 2 \\ \hline 20 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 2 \\ \times 5 \\ \hline 10 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 6 \\ \times 3 \\ \hline 18 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 2 \\ \times 4 \\ \hline 8 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 5 \\ \times 3 \\ \hline 15 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 3 \\ \times 4 \\ \hline 12 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 3 \\ \times 5 \\ \hline 15 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 2 \\ \times 12 \\ \hline 24 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 3 \\ \times 6 \\ \hline 18 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 7 \\ \times 3 \\ \hline 21 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 4 \\ \times 3 \\ \hline 12 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 6 \\ \times 2 \\ \hline 12 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 11 \\ \times 3 \\ \hline 33 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 2 \\ \times 8 \\ \hline 16 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 5 \\ \times 2 \\ \hline 10 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 8 \\ \times 3 \\ \hline 24 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 2 \\ \times 9 \\ \hline 18 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 12 \\ \times 3 \\ \hline 36 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 3 \\ \times 3 \\ \hline 9 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 3 \\ \times 1 \\ \hline 3 \end{array}$$

کارڈ نمبر: 9

حل کریں

جماعت سوم

$$\begin{array}{r} 8 \\ \times 2 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1 \\ \times 3 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 7 \\ \times 2 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 2 \\ \times 10 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1 \\ \times 2 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 3 \\ \times 12 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 12 \\ \times 2 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 3 \\ \times 11 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 3 \\ \times 10 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 10 \\ \times 3 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 2 \\ \times 6 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 8 \\ \times 3 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 2 \\ \times 1 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 7 \\ \times 3 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 2 \\ \times 7 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 9 \\ \times 3 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 4 \\ \times 2 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 3 \\ \times 2 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 3 \\ \times 9 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 3 \\ \times 2 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 6 \\ \times 3 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 2 \\ \times 3 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 3 \\ \times 3 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 2 \\ \times 2 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 9 \\ \times 2 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 2 \\ \times 11 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 3 \\ \times 7 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 3 \\ \times 8 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 2 \\ \times 3 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 11 \\ \times 2 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 10 \\ \times 2 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 2 \\ \times 5 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 6 \\ \times 3 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 2 \\ \times 4 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 5 \\ \times 3 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 3 \\ \times 4 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 3 \\ \times 5 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 2 \\ \times 12 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 3 \\ \times 6 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 7 \\ \times 3 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 4 \\ \times 3 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 6 \\ \times 2 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 11 \\ \times 3 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 2 \\ \times 8 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 5 \\ \times 2 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 8 \\ \times 3 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 2 \\ \times 9 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 12 \\ \times 3 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 3 \\ \times 3 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 3 \\ \times 1 \\ \hline \end{array}$$

کارڈ نمبر: 9

جماعت سوم

جوابات

$$\begin{array}{r} 8 \\ \times 2 \\ \hline 16 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1 \\ \times 3 \\ \hline 3 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 7 \\ \times 2 \\ \hline 14 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 2 \\ \times 10 \\ \hline 20 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1 \\ \times 2 \\ \hline 2 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 3 \\ \times 12 \\ \hline 36 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 12 \\ \times 2 \\ \hline 24 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 3 \\ \times 11 \\ \hline 33 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 3 \\ \times 10 \\ \hline 30 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 10 \\ \times 3 \\ \hline 30 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 2 \\ \times 6 \\ \hline 12 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 8 \\ \times 3 \\ \hline 24 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 2 \\ \times 1 \\ \hline 2 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 7 \\ \times 3 \\ \hline 21 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 2 \\ \times 7 \\ \hline 14 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 9 \\ \times 3 \\ \hline 27 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 4 \\ \times 2 \\ \hline 8 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 3 \\ \times 2 \\ \hline 6 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 3 \\ \times 9 \\ \hline 27 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 3 \\ \times 2 \\ \hline 6 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 6 \\ \times 3 \\ \hline 18 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 2 \\ \times 3 \\ \hline 6 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 3 \\ \times 3 \\ \hline 9 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 2 \\ \times 2 \\ \hline 4 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 9 \\ \times 2 \\ \hline 18 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 2 \\ \times 11 \\ \hline 22 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 3 \\ \times 7 \\ \hline 21 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 3 \\ \times 8 \\ \hline 24 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 2 \\ \times 3 \\ \hline 6 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 11 \\ \times 2 \\ \hline 22 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 10 \\ \times 2 \\ \hline 20 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 2 \\ \times 5 \\ \hline 10 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 6 \\ \times 3 \\ \hline 18 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 2 \\ \times 4 \\ \hline 8 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 5 \\ \times 3 \\ \hline 15 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 3 \\ \times 4 \\ \hline 12 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 3 \\ \times 5 \\ \hline 15 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 2 \\ \times 12 \\ \hline 24 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 3 \\ \times 6 \\ \hline 18 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 7 \\ \times 3 \\ \hline 21 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 4 \\ \times 3 \\ \hline 12 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 6 \\ \times 2 \\ \hline 12 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 11 \\ \times 3 \\ \hline 33 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 2 \\ \times 8 \\ \hline 16 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 5 \\ \times 2 \\ \hline 10 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 8 \\ \times 3 \\ \hline 24 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 2 \\ \times 9 \\ \hline 18 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 12 \\ \times 3 \\ \hline 36 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 3 \\ \times 3 \\ \hline 9 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 3 \\ \times 1 \\ \hline 3 \end{array}$$



کارڈ نمبر: 10

حل کریں

جماعت سوم

$$\begin{array}{r} 8 \\ \times 1 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 8 \\ \times 9 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1 \\ \times 8 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 4 \\ \times 9 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 2 \\ \times 8 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 10 \\ \times 9 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 9 \\ \times 9 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 12 \\ \times 8 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 6 \\ \times 9 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 9 \\ \times 3 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 8 \\ \times 2 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 9 \\ \times 5 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 9 \\ \times 4 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 5 \\ \times 9 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 3 \\ \times 8 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 9 \\ \times 6 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 12 \\ \times 9 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 11 \\ \times 9 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 4 \\ \times 8 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 8 \\ \times 6 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 8 \\ \times 3 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 9 \\ \times 2 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 5 \\ \times 8 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 4 \\ \times 9 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 3 \\ \times 9 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 9 \\ \times 7 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 6 \\ \times 8 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 8 \\ \times 5 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 8 \\ \times 12 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 7 \\ \times 8 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 11 \\ \times 8 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 9 \\ \times 8 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 9 \\ \times 11 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 9 \\ \times 8 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 8 \\ \times 11 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 8 \\ \times 4 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 8 \\ \times 9 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 10 \\ \times 8 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 8 \\ \times 7 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 8 \\ \times 10 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 9 \\ \times 9 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 9 \\ \times 10 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 8 \\ \times 8 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 9 \\ \times 1 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 9 \\ \times 12 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 8 \\ \times 8 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 2 \\ \times 9 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 7 \\ \times 9 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 8 \\ \times 9 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1 \\ \times 9 \\ \hline \end{array}$$

کارڈ نمبر: 10

جماعت سوم

## جوابات

$$\begin{array}{r} 8 \\ \times 1 \\ \hline 8 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 8 \\ \times 9 \\ \hline 72 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1 \\ \times 8 \\ \hline 8 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 4 \\ \times 9 \\ \hline 36 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 2 \\ \times 8 \\ \hline 16 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 10 \\ \times 9 \\ \hline 90 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 9 \\ \times 9 \\ \hline 81 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 12 \\ \times 8 \\ \hline 96 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 6 \\ \times 9 \\ \hline 54 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 9 \\ \times 3 \\ \hline 27 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 8 \\ \times 2 \\ \hline 16 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 9 \\ \times 5 \\ \hline 45 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 9 \\ \times 4 \\ \hline 36 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 5 \\ \times 9 \\ \hline 45 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 3 \\ \times 8 \\ \hline 24 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 9 \\ \times 6 \\ \hline 54 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 12 \\ \times 9 \\ \hline 108 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 11 \\ \times 9 \\ \hline 99 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 4 \\ \times 8 \\ \hline 32 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 8 \\ \times 6 \\ \hline 48 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 8 \\ \times 3 \\ \hline 24 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 9 \\ \times 2 \\ \hline 18 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 5 \\ \times 8 \\ \hline 40 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 4 \\ \times 9 \\ \hline 36 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 3 \\ \times 9 \\ \hline 27 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 9 \\ \times 7 \\ \hline 63 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 6 \\ \times 8 \\ \hline 48 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 8 \\ \times 5 \\ \hline 40 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 8 \\ \times 12 \\ \hline 96 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 7 \\ \times 8 \\ \hline 56 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 11 \\ \times 8 \\ \hline 88 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 9 \\ \times 8 \\ \hline 72 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 9 \\ \times 11 \\ \hline 99 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 9 \\ \times 8 \\ \hline 72 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 8 \\ \times 11 \\ \hline 88 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 8 \\ \times 4 \\ \hline 32 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 8 \\ \times 9 \\ \hline 72 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 10 \\ \times 8 \\ \hline 80 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 8 \\ \times 7 \\ \hline 56 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 8 \\ \times 10 \\ \hline 80 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 9 \\ \times 9 \\ \hline 81 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 9 \\ \times 10 \\ \hline 90 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 8 \\ \times 8 \\ \hline 64 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 9 \\ \times 1 \\ \hline 9 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 9 \\ \times 12 \\ \hline 108 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 8 \\ \times 8 \\ \hline 64 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 2 \\ \times 9 \\ \hline 18 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 7 \\ \times 9 \\ \hline 63 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 8 \\ \times 9 \\ \hline 72 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1 \\ \times 9 \\ \hline 9 \end{array}$$

کارڈ نمبر: 11

جماعت سوم

حل کریں

$$\begin{array}{r} 10 \\ \times 11 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 12 \\ \times 5 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 9 \\ \times 11 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 10 \\ \times 7 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 11 \\ \times 1 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 10 \\ \times 8 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 12 \\ \times 4 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 11 \\ \times 2 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 12 \\ \times 6 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 8 \\ \times 11 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 12 \\ \times 3 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 11 \\ \times 3 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 12 \\ \times 2 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 12 \\ \times 7 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 12 \\ \times 1 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 12 \\ \times 10 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 12 \\ \times 9 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 12 \\ \times 11 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 12 \\ \times 8 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1 \\ \times 10 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 10 \\ \times 9 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 10 \\ \times 6 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 12 \\ \times 12 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 10 \\ \times 10 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 3 \\ \times 12 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 11 \\ \times 4 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 11 \\ \times 11 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 12 \\ \times 11 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 2 \\ \times 10 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 11 \\ \times 5 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 6 \\ \times 12 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 3 \\ \times 10 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 5 \\ \times 12 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 4 \\ \times 12 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 5 \\ \times 10 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 7 \\ \times 12 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 10 \\ \times 11 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 11 \\ \times 7 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 4 \\ \times 10 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 11 \\ \times 6 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 8 \\ \times 12 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 9 \\ \times 12 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 10 \\ \times 12 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 12 \\ \times 10 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 11 \\ \times 12 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 10 \\ \times 10 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 11 \\ \times 11 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 12 \\ \times 11 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 12 \\ \times 5 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 12 \\ \times 12 \\ \hline \end{array}$$

کارڈ نمبر: 11

جماعت سوم

جوابات

$$\begin{array}{r} 10 \\ \times 11 \\ \hline 110 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 12 \\ \times 5 \\ \hline 60 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 9 \\ \times 11 \\ \hline 99 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 10 \\ \times 7 \\ \hline 70 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 11 \\ \times 1 \\ \hline 11 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 10 \\ \times 8 \\ \hline 80 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 12 \\ \times 4 \\ \hline 48 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 11 \\ \times 2 \\ \hline 22 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 12 \\ \times 6 \\ \hline 72 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 8 \\ \times 11 \\ \hline 88 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 12 \\ \times 3 \\ \hline 36 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 11 \\ \times 3 \\ \hline 33 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 12 \\ \times 2 \\ \hline 24 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 12 \\ \times 7 \\ \hline 84 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 12 \\ \times 1 \\ \hline 12 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 12 \\ \times 10 \\ \hline 120 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 12 \\ \times 9 \\ \hline 108 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 12 \\ \times 11 \\ \hline 132 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 12 \\ \times 8 \\ \hline 96 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1 \\ \times 10 \\ \hline 10 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 10 \\ \times 9 \\ \hline 90 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 10 \\ \times 6 \\ \hline 60 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 12 \\ \times 12 \\ \hline 144 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 10 \\ \times 10 \\ \hline 100 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 3 \\ \times 12 \\ \hline 36 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 11 \\ \times 4 \\ \hline 44 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 11 \\ \times 11 \\ \hline 121 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 12 \\ \times 11 \\ \hline 132 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 2 \\ \times 10 \\ \hline 20 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 11 \\ \times 5 \\ \hline 55 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 6 \\ \times 12 \\ \hline 72 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 3 \\ \times 10 \\ \hline 30 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 5 \\ \times 12 \\ \hline 60 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 4 \\ \times 12 \\ \hline 48 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 5 \\ \times 10 \\ \hline 50 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 7 \\ \times 12 \\ \hline 84 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 10 \\ \times 11 \\ \hline 110 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 11 \\ \times 7 \\ \hline 77 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 4 \\ \times 10 \\ \hline 40 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 11 \\ \times 6 \\ \hline 66 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 8 \\ \times 12 \\ \hline 96 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 9 \\ \times 12 \\ \hline 108 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 10 \\ \times 12 \\ \hline 120 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 12 \\ \times 10 \\ \hline 120 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 11 \\ \times 12 \\ \hline 132 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 10 \\ \times 10 \\ \hline 100 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 11 \\ \times 11 \\ \hline 121 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 12 \\ \times 11 \\ \hline 132 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 12 \\ \times 5 \\ \hline 60 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 12 \\ \times 12 \\ \hline 144 \end{array}$$

کارڈ نمبر: 12

جماعت سوم

حل کریں

$$\begin{array}{r} 6 \\ \times 9 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 9 \\ \times 7 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 6 \\ \times 8 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 5 \\ \times 6 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 8 \\ \times 7 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 10 \\ \times 7 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1 \\ \times 6 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 7 \\ \times 5 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 6 \\ \times 6 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 12 \\ \times 6 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 11 \\ \times 7 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 6 \\ \times 7 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 7 \\ \times 4 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 6 \\ \times 11 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 7 \\ \times 7 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 6 \\ \times 5 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 12 \\ \times 7 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 2 \\ \times 6 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 7 \\ \times 1 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 3 \\ \times 6 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 6 \\ \times 12 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 4 \\ \times 6 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 7 \\ \times 2 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 7 \\ \times 3 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 7 \\ \times 7 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 3 \\ \times 7 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 2 \\ \times 7 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 6 \\ \times 10 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 6 \\ \times 7 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1 \\ \times 7 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 4 \\ \times 7 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 7 \\ \times 6 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 5 \\ \times 7 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 6 \\ \times 6 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 7 \\ \times 8 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 6 \\ \times 4 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 6 \\ \times 7 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 6 \\ \times 3 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 7 \\ \times 9 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 8 \\ \times 6 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 9 \\ \times 6 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 6 \\ \times 2 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 7 \\ \times 10 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 10 \\ \times 6 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 6 \\ \times 8 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 7 \\ \times 12 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 7 \\ \times 11 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 11 \\ \times 6 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 7 \\ \times 9 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 6 \\ \times 1 \\ \hline \end{array}$$

کارڈ نمبر: 12

جماعت سوم

جوابات

$$\begin{array}{r} 6 \\ \times 9 \\ \hline 54 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 9 \\ \times 7 \\ \hline 63 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 6 \\ \times 8 \\ \hline 48 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 5 \\ \times 6 \\ \hline 30 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 8 \\ \times 7 \\ \hline 56 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 10 \\ \times 7 \\ \hline 70 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1 \\ \times 6 \\ \hline 6 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 7 \\ \times 5 \\ \hline 35 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 6 \\ \times 6 \\ \hline 36 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 12 \\ \times 6 \\ \hline 72 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 11 \\ \times 7 \\ \hline 77 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 6 \\ \times 7 \\ \hline 42 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 7 \\ \times 4 \\ \hline 28 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 6 \\ \times 11 \\ \hline 66 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 7 \\ \times 7 \\ \hline 49 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 6 \\ \times 5 \\ \hline 30 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 12 \\ \times 7 \\ \hline 84 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 2 \\ \times 6 \\ \hline 12 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 7 \\ \times 1 \\ \hline 7 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 3 \\ \times 6 \\ \hline 18 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 6 \\ \times 12 \\ \hline 72 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 4 \\ \times 6 \\ \hline 24 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 7 \\ \times 2 \\ \hline 14 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 7 \\ \times 3 \\ \hline 21 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 7 \\ \times 7 \\ \hline 49 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 3 \\ \times 7 \\ \hline 21 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 2 \\ \times 7 \\ \hline 14 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 6 \\ \times 10 \\ \hline 60 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 6 \\ \times 7 \\ \hline 42 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1 \\ \times 7 \\ \hline 7 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 4 \\ \times 7 \\ \hline 28 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 7 \\ \times 6 \\ \hline 42 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 5 \\ \times 7 \\ \hline 35 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 6 \\ \times 6 \\ \hline 36 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 7 \\ \times 8 \\ \hline 56 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 6 \\ \times 4 \\ \hline 24 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 6 \\ \times 7 \\ \hline 42 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 6 \\ \times 3 \\ \hline 18 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 7 \\ \times 9 \\ \hline 63 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 8 \\ \times 6 \\ \hline 48 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 9 \\ \times 6 \\ \hline 54 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 6 \\ \times 2 \\ \hline 12 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 7 \\ \times 10 \\ \hline 70 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 10 \\ \times 6 \\ \hline 60 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 6 \\ \times 8 \\ \hline 48 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 7 \\ \times 12 \\ \hline 84 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 7 \\ \times 11 \\ \hline 77 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 11 \\ \times 6 \\ \hline 66 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 7 \\ \times 9 \\ \hline 63 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 6 \\ \times 1 \\ \hline 6 \end{array}$$

کارڈ نمبر: 13

جماعت سوم

حل کریں

$$\begin{array}{r} 8 \\ \times 5 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1 \\ \times 7 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 8 \\ \times 8 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 9 \\ \times 9 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 0 \\ \times 7 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 7 \\ \times 9 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 2 \\ \times 5 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 9 \\ \times 7 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 3 \\ \times 7 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 8 \\ \times 7 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 8 \\ \times 9 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 2 \\ \times 6 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 4 \\ \times 9 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 4 \\ \times 5 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 4 \\ \times 8 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 6 \\ \times 8 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 2 \\ \times 9 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 0 \\ \times 8 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 3 \\ \times 8 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1 \\ \times 9 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 5 \\ \times 7 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 6 \\ \times 9 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 4 \\ \times 9 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 4 \\ \times 6 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 3 \\ \times 2 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 2 \\ \times 8 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 3 \\ \times 5 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 6 \\ \times 8 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 9 \\ \times 9 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 7 \\ \times 6 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 0 \\ \times 9 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 2 \\ \times 8 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 5 \\ \times 5 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 7 \\ \times 7 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 5 \\ \times 6 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 4 \\ \times 8 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 7 \\ \times 8 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 9 \\ \times 8 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 4 \\ \times 7 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 8 \\ \times 6 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 3 \\ \times 6 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 6 \\ \times 6 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1 \\ \times 8 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 9 \\ \times 6 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 5 \\ \times 8 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 5 \\ \times 9 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 3 \\ \times 9 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 6 \\ \times 7 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 4 \\ \times 6 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 9 \\ \times 6 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 6 \\ \times 6 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 9 \\ \times 8 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 7 \\ \times 5 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 3 \\ \times 8 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 9 \\ \times 5 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 8 \\ \times 7 \\ \hline \end{array}$$

کارڈ نمبر: 13

جماعت سوم

جوابات

$$\begin{array}{r} 8 \\ \times 5 \\ \hline 40 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1 \\ \times 7 \\ \hline 7 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 8 \\ \times 8 \\ \hline 64 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 9 \\ \times 9 \\ \hline 81 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 0 \\ \times 7 \\ \hline 0 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 7 \\ \times 9 \\ \hline 63 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 2 \\ \times 5 \\ \hline 10 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 9 \\ \times 7 \\ \hline 63 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 3 \\ \times 7 \\ \hline 21 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 8 \\ \times 7 \\ \hline 56 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 8 \\ \times 9 \\ \hline 72 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 2 \\ \times 6 \\ \hline 12 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 4 \\ \times 9 \\ \hline 36 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 4 \\ \times 5 \\ \hline 20 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 4 \\ \times 8 \\ \hline 32 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 6 \\ \times 8 \\ \hline 48 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 2 \\ \times 9 \\ \hline 18 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 0 \\ \times 8 \\ \hline 0 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 3 \\ \times 8 \\ \hline 24 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1 \\ \times 9 \\ \hline 9 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 5 \\ \times 7 \\ \hline 35 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 6 \\ \times 9 \\ \hline 54 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 4 \\ \times 9 \\ \hline 36 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 4 \\ \times 6 \\ \hline 24 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 3 \\ \times 2 \\ \hline 6 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 2 \\ \times 8 \\ \hline 16 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 3 \\ \times 5 \\ \hline 15 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 6 \\ \times 8 \\ \hline 48 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 9 \\ \times 9 \\ \hline 81 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 7 \\ \times 6 \\ \hline 42 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 0 \\ \times 9 \\ \hline 0 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 2 \\ \times 8 \\ \hline 16 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 5 \\ \times 5 \\ \hline 25 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 7 \\ \times 7 \\ \hline 49 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 5 \\ \times 6 \\ \hline 30 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 4 \\ \times 8 \\ \hline 32 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 7 \\ \times 8 \\ \hline 56 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 9 \\ \times 8 \\ \hline 72 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 4 \\ \times 7 \\ \hline 28 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 8 \\ \times 6 \\ \hline 48 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 3 \\ \times 6 \\ \hline 18 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 6 \\ \times 6 \\ \hline 36 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1 \\ \times 8 \\ \hline 8 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 9 \\ \times 6 \\ \hline 54 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 5 \\ \times 8 \\ \hline 40 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 5 \\ \times 9 \\ \hline 45 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 3 \\ \times 9 \\ \hline 27 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 6 \\ \times 7 \\ \hline 42 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 4 \\ \times 6 \\ \hline 24 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 9 \\ \times 6 \\ \hline 54 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 6 \\ \times 6 \\ \hline 36 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 9 \\ \times 8 \\ \hline 72 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 7 \\ \times 5 \\ \hline 35 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 3 \\ \times 8 \\ \hline 24 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 9 \\ \times 5 \\ \hline 45 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 8 \\ \times 7 \\ \hline 56 \end{array}$$



1.  $\begin{array}{r} 5 \\ \times 3 \\ \hline \end{array}$

2.  $\begin{array}{r} 5 \\ \times 7 \\ \hline \end{array}$

3.  $\begin{array}{r} 4 \\ \times 6 \\ \hline \end{array}$

4.  $\begin{array}{r} 5 \\ \times 2 \\ \hline \end{array}$

5.  $\begin{array}{r} 5 \\ \times 5 \\ \hline \end{array}$

6.  $\begin{array}{r} 3 \\ \times 8 \\ \hline \end{array}$

7.  $2 \times 5 = \underline{\quad}$

8.  $8 \times 5 = \underline{\quad}$

9.  $6 \times 5 = \underline{\quad}$

10.  $9 \times 5 = \underline{\quad}$

11.  $7 \times 5 = \underline{\quad}$

12.  $5 \times 5 = \underline{\quad}$

13.  $\begin{array}{r} 5 \\ \times 9 \\ \hline \end{array}$

14.  $\begin{array}{r} 2 \\ \times 6 \\ \hline \end{array}$

15.  $\begin{array}{r} 5 \\ \times 4 \\ \hline \end{array}$

16.  $\begin{array}{r} 5 \\ \times 8 \\ \hline \end{array}$

17.  $\begin{array}{r} 4 \\ \times 9 \\ \hline \end{array}$

18.  $\begin{array}{r} 3 \\ \times 5 \\ \hline \end{array}$

19.  $\begin{array}{r} 4 \\ \times 3 \\ \hline \end{array}$

20.  $\begin{array}{r} 5 \\ \times 1 \\ \hline \end{array}$


21.  $\begin{array}{r} 2 \\ \times 7 \\ \hline \end{array}$

22.  $\begin{array}{r} 3 \\ \times 3 \\ \hline \end{array}$


23.  $\begin{array}{r} 5 \\ \times 6 \\ \hline \end{array}$

24.  $\begin{array}{r} 2 \\ \times 9 \\ \hline \end{array}$

25.



26.



کارڈ نمبر: 20

جماعت سوم

جوابات

1.  $\begin{array}{r} 5 \\ \times 3 \\ \hline 15 \end{array}$

2.  $\begin{array}{r} 5 \\ \times 7 \\ \hline 15 \end{array}$

3.  $\begin{array}{r} 4 \\ \times 6 \\ \hline 24 \end{array}$

4.  $\begin{array}{r} 5 \\ \times 2 \\ \hline 10 \end{array}$

5.  $\begin{array}{r} 5 \\ \times 5 \\ \hline 25 \end{array}$

6.  $\begin{array}{r} 3 \\ \times 8 \\ \hline 24 \end{array}$

7.  $2 \times 5 = \underline{10}$

8.  $8 \times 5 = \underline{40}$

9.  $6 \times 5 = \underline{30}$

10.  $9 \times 5 = \underline{45}$

11.  $7 \times 5 = \underline{35}$

12.  $5 \times 5 = \underline{25}$

13.  $\begin{array}{r} 5 \\ \times 9 \\ \hline 45 \end{array}$

14.  $\begin{array}{r} 2 \\ \times 6 \\ \hline 12 \end{array}$

15.  $\begin{array}{r} 5 \\ \times 4 \\ \hline 20 \end{array}$

16.  $\begin{array}{r} 5 \\ \times 8 \\ \hline 40 \end{array}$

17.  $\begin{array}{r} 4 \\ \times 9 \\ \hline 36 \end{array}$

18.  $\begin{array}{r} 3 \\ \times 5 \\ \hline 15 \end{array}$

19.  $\begin{array}{r} 4 \\ \times 3 \\ \hline 12 \end{array}$

20.  $\begin{array}{r} 5 \\ \times 1 \\ \hline 5 \end{array}$


21.  $\begin{array}{r} 2 \\ \times 7 \\ \hline 14 \end{array}$

22.  $\begin{array}{r} 3 \\ \times 3 \\ \hline 9 \end{array}$


23.  $\begin{array}{r} 5 \\ \times 6 \\ \hline 30 \end{array}$

24.  $\begin{array}{r} 2 \\ \times 9 \\ \hline 18 \end{array}$

25.



26.



# کارڈ نمبر: 21

# جماعت سوم

$$\begin{array}{r} 1. \quad 4 \\ \times 2 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 2. \quad 4 \\ \times 6 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 3. \quad 2 \\ \times 8 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 4. \quad 4 \\ \times 9 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 5. \quad 4 \\ \times 1 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 6. \quad 2 \\ \times 7 \\ \hline \end{array}$$

$$7. 1 \times 4 = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$8. 9 \times 4 = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$9. 4 \times 4 = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$10. 5 \times 4 = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$11. 6 \times 4 = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$12. 2 \times 4 = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$13. 8 \times 4 = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$14. 3 \times 4 = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$15. 7 \times 4 = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$\begin{array}{r} 16. \quad 4 \\ \times 8 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 17. \quad 2 \\ \times 6 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 18. \quad 4 \\ \times 7 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 19. \quad 4 \\ \times 3 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 20. \quad 3 \\ \times 9 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 21. \quad 3 \\ \times 5 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 22. \quad 3 \\ \times 4 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 23. \quad 4 \\ \times 4 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 24. \quad 3 \\ \times 3 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 25. \quad 4 \\ \times 5 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 26. \quad 2 \\ \times 4 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 27. \quad 3 \\ \times 8 \\ \hline \end{array}$$

$$28. 6 \times 4 = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$\underline{\hspace{2cm}} = 9 \times 1$$

$$29. 5 \times 2 = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$\underline{\hspace{2cm}} = 2 \times 4$$

$$30. 3 \times 3 = \underline{\hspace{2cm}}$$


$$\underline{\hspace{2cm}} = 6 \times 2$$

$$31. 8 \times 1 = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$\underline{\hspace{2cm}} = 10 \times 1$$

$$32. 3 \times 4 = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$\underline{\hspace{2cm}} = 8 \times 3$$



کارڈ نمبر: 21

جماعت سوم

## جوابات

$$\begin{array}{r} 1. \quad 4 \\ \times 2 \\ \hline 8 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 2. \quad 4 \\ \times 6 \\ \hline 24 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 3. \quad 2 \\ \times 8 \\ \hline 16 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 4. \quad 4 \\ \times 9 \\ \hline 36 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 5. \quad 4 \\ \times 1 \\ \hline 4 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 6. \quad 2 \\ \times 7 \\ \hline 14 \end{array}$$

$$7. 1 \times 4 = \underline{4}$$

$$8. 9 \times 4 = \underline{36}$$

$$9. 4 \times 4 = \underline{16}$$

$$10. 5 \times 4 = \underline{20}$$

$$11. 6 \times 4 = \underline{24}$$

$$12. 2 \times 4 = \underline{8}$$

$$13. 8 \times 4 = \underline{32}$$

$$14. 3 \times 4 = \underline{12}$$

$$15. 7 \times 4 = \underline{28}$$

$$\begin{array}{r} 16. \quad 4 \\ \times 8 \\ \hline 32 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 17. \quad 2 \\ \times 6 \\ \hline 12 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 18. \quad 4 \\ \times 7 \\ \hline 28 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 19. \quad 4 \\ \times 3 \\ \hline 12 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 20. \quad 3 \\ \times 9 \\ \hline 27 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 21. \quad 3 \\ \times 5 \\ \hline 15 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 22. \quad 3 \\ \times 4 \\ \hline 12 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 23. \quad 4 \\ \times 4 \\ \hline 16 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 24. \quad 3 \\ \times 3 \\ \hline 9 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 25. \quad 4 \\ \times 5 \\ \hline 20 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 26. \quad 2 \\ \times 4 \\ \hline 8 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 27. \quad 3 \\ \times 8 \\ \hline 24 \end{array}$$

$$28. 6 \times 4 = \underline{24}$$

$$\underline{9} = 9 \times 1$$

$$29. 5 \times 2 = \underline{10}$$

$$\underline{8} = 2 \times 4$$

$$30. 3 \times 3 = \underline{9}$$


$$\underline{12} = 6 \times 2$$

$$31. 8 \times 1 = \underline{8}$$

$$\underline{10} = 10 \times 1$$

$$32. 3 \times 4 = \underline{12}$$

$$\underline{24} = 8 \times 3$$



1. 
$$\begin{array}{r} 58 \\ \times 6 \\ \hline \end{array}$$

2. 
$$\begin{array}{r} 93 \\ \times 6 \\ \hline \end{array}$$

3. 
$$\begin{array}{r} 28 \\ \times 3 \\ \hline \end{array}$$

4. 
$$\begin{array}{r} 82 \\ \times 8 \\ \hline \end{array}$$

5. 
$$\begin{array}{r} 95 \\ \times 3 \\ \hline \end{array}$$

6. 
$$\begin{array}{r} 25 \\ \times 4 \\ \hline \end{array}$$

7. 
$$\begin{array}{r} 94 \\ \times 9 \\ \hline \end{array}$$

8. 
$$\begin{array}{r} 19 \\ \times 8 \\ \hline \end{array}$$

9. 
$$\begin{array}{r} 94 \\ \times 3 \\ \hline \end{array}$$

10. 
$$\begin{array}{r} 36 \\ \times 9 \\ \hline \end{array}$$

11. 
$$\begin{array}{r} 14 \\ \times 7 \\ \hline \end{array}$$

12. 
$$\begin{array}{r} 38 \\ \times 9 \\ \hline \end{array}$$

13. 
$$\begin{array}{r} 64 \\ \times 3 \\ \hline \end{array}$$

14. 
$$\begin{array}{r} 19 \\ \times 7 \\ \hline \end{array}$$

15. 
$$\begin{array}{r} 79 \\ \times 2 \\ \hline \end{array}$$

16. 
$$\begin{array}{r} 47 \\ \times 8 \\ \hline \end{array}$$

17. 
$$\begin{array}{r} 93 \\ \times 5 \\ \hline \end{array}$$

18. 
$$\begin{array}{r} 22 \\ \times 6 \\ \hline \end{array}$$

19. 
$$\begin{array}{r} 66 \\ \times 8 \\ \hline \end{array}$$

20. 
$$\begin{array}{r} 71 \\ \times 5 \\ \hline \end{array}$$

21. 
$$\begin{array}{r} 84 \\ \times 9 \\ \hline \end{array}$$

22. 
$$\begin{array}{r} 58 \\ \times 8 \\ \hline \end{array}$$

23. 
$$\begin{array}{r} 76 \\ \times 8 \\ \hline \end{array}$$

24. 
$$\begin{array}{r} 17 \\ \times 9 \\ \hline \end{array}$$

25.  $6 \times 74 = \underline{\hspace{2cm}}$

26.  $7 \times 16 = \underline{\hspace{2cm}}$

27.  $3 \times 74 = \underline{\hspace{2cm}}$

28.  $3 \times 35 = \underline{\hspace{2cm}}$

29.  $8 \times 78 = \underline{\hspace{2cm}}$

30.  $9 \times 58 = \underline{\hspace{2cm}}$

31.

$9 \times 40 = \underline{\hspace{2cm}}$	$\begin{array}{r} 45 \\ \times 8 \\ \hline \end{array}$	$6 \times 60 = \underline{\hspace{2cm}}$
$\begin{array}{r} 56 \\ \times 4 \\ \hline \end{array}$	$4 \times 90 = \underline{\hspace{2cm}}$	$\begin{array}{r} 27 \\ \times 5 \\ \hline \end{array}$
$9 \times 17 = \underline{\hspace{2cm}}$	$\begin{array}{r} 72 \\ \times 5 \\ \hline \end{array}$	$3 \times 97 = \underline{\hspace{2cm}}$

کارڈ نمبر: 22

جماعت سوم

## جوابات

$$\begin{array}{r} 1. \quad 58 \\ \times 6 \\ \hline 348 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 2. \quad 93 \\ \times 6 \\ \hline 558 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 3. \quad 28 \\ \times 3 \\ \hline 84 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 4. \quad 82 \\ \times 8 \\ \hline 656 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 5. \quad 95 \\ \times 3 \\ \hline 285 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 6. \quad 25 \\ \times 4 \\ \hline 100 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 7. \quad 94 \\ \times 9 \\ \hline 846 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 8. \quad 19 \\ \times 8 \\ \hline 152 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 9. \quad 94 \\ \times 3 \\ \hline 282 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 10. \quad 36 \\ \times 9 \\ \hline 324 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 11. \quad 14 \\ \times 7 \\ \hline 98 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 12. \quad 38 \\ \times 9 \\ \hline 342 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 13. \quad 64 \\ \times 3 \\ \hline 192 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 14. \quad 19 \\ \times 7 \\ \hline 133 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 15. \quad 79 \\ \times 2 \\ \hline 158 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 16. \quad 47 \\ \times 8 \\ \hline 376 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 17. \quad 93 \\ \times 5 \\ \hline 465 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 18. \quad 22 \\ \times 6 \\ \hline 132 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 19. \quad 66 \\ \times 8 \\ \hline 528 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 20. \quad 71 \\ \times 5 \\ \hline 355 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 21. \quad 84 \\ \times 9 \\ \hline 756 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 22. \quad 58 \\ \times 8 \\ \hline 464 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 23. \quad 76 \\ \times 8 \\ \hline 608 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 24. \quad 17 \\ \times 9 \\ \hline 153 \end{array}$$

$$25. \quad 6 \times 74 = \underline{444}$$

$$26. \quad 7 \times 16 = \underline{112}$$

$$27. \quad 3 \times 74 = \underline{222}$$

$$28. \quad 3 \times 35 = \underline{105}$$

$$29. \quad 8 \times 78 = \underline{624}$$

$$30. \quad 9 \times 58 = \underline{522}$$

31.

$9 \times 40 = \underline{360}$	$\begin{array}{r} 45 \\ \times 8 \\ \hline 360 \end{array}$	$6 \times 60 = \underline{360}$
$\begin{array}{r} 56 \\ \times 4 \\ \hline 224 \end{array}$	$4 \times 90 = \underline{360}$	$\begin{array}{r} 27 \\ \times 5 \\ \hline 135 \end{array}$
$9 \times 17 = \underline{153}$	$\begin{array}{r} 72 \\ \times 5 \\ \hline 360 \end{array}$	$3 \times 97 = \underline{291}$

1. 
$$\begin{array}{r} 114 \\ \times 6 \\ \hline \end{array}$$

2. 
$$\begin{array}{r} 454 \\ \times 2 \\ \hline \end{array}$$

3. 
$$\begin{array}{r} 112 \\ \times 8 \\ \hline \end{array}$$

4. 
$$\begin{array}{r} 326 \\ \times 2 \\ \hline \end{array}$$

5. 
$$\begin{array}{r} 164 \\ \times 2 \\ \hline \end{array}$$

6. 
$$\begin{array}{r} 394 \\ \times 2 \\ \hline \end{array}$$

7.  $310 \times 8 = \underline{\hspace{2cm}}$

8.  $349 \times 2 = \underline{\hspace{2cm}}$

9.  $393 \times 2 = \underline{\hspace{2cm}}$

10.  $235 \times 2 = \underline{\hspace{2cm}}$

11.  $115 \times 5 = \underline{\hspace{2cm}}$

12.  $211 \times 5 = \underline{\hspace{2cm}}$

13. 
$$\begin{array}{r} 123 \\ \times 4 \\ \hline \end{array}$$

14. 
$$\begin{array}{r} 131 \\ \times 7 \\ \hline \end{array}$$

15. 
$$\begin{array}{r} 121 \\ \times 8 \\ \hline \end{array}$$

16. 
$$\begin{array}{r} 113 \\ \times 6 \\ \hline \end{array}$$

17. 
$$\begin{array}{r} 501 \\ \times 7 \\ \hline \end{array}$$

18. 
$$\begin{array}{r} 151 \\ \times 6 \\ \hline \end{array}$$

19. 
$$\begin{array}{r} 118 \\ \times 5 \\ \hline \end{array}$$

20. 
$$\begin{array}{r} 150 \\ \times 8 \\ \hline \end{array}$$

21. 
$$\begin{array}{r} 493 \\ \times 2 \\ \hline \end{array}$$

22. 
$$\begin{array}{r} 902 \\ \times 4 \\ \hline \end{array}$$


23. 
$$\begin{array}{r} 132 \\ \times 4 \\ \hline \end{array}$$

24. 
$$\begin{array}{r} 228 \\ \times 3 \\ \hline \end{array}$$

25. 
$$\begin{array}{r} 251 \\ \times 3 \\ \hline \end{array}$$

26. 
$$\begin{array}{r} 112 \\ \times 7 \\ \hline \end{array}$$

27. 
$$\begin{array}{r} 316 \\ \times 2 \\ \hline \end{array}$$



28. 
$$\begin{array}{r} 231 \\ \times 4 \\ \hline \end{array}$$

29. 
$$\begin{array}{r} 300 \\ \times 5 \\ \hline \end{array}$$

30. 
$$\begin{array}{r} 108 \\ \times 6 \\ \hline \end{array}$$

31. 
$$\begin{array}{r} 924 \\ \times 3 \\ \hline \end{array}$$

32. 
$$\begin{array}{r} 753 \\ \times 5 \\ \hline \end{array}$$

33. 
$$\begin{array}{r} 648 \\ \times 12 \\ \hline \end{array}$$

34. 
$$\begin{array}{r} 500 \\ \times 13 \\ \hline \end{array}$$

35. 
$$\begin{array}{r} 632 \\ \times 8 \\ \hline \end{array}$$

36. 
$$\begin{array}{r} 784 \\ \times 9 \\ \hline \end{array}$$

کارد نمبر: 23

جماعت سوم

جوابات

1.  $\begin{array}{r} 114 \\ \times 6 \\ \hline 684 \end{array}$

2.  $\begin{array}{r} 454 \\ \times 2 \\ \hline 908 \end{array}$

3.  $\begin{array}{r} 112 \\ \times 8 \\ \hline 896 \end{array}$

4.  $\begin{array}{r} 326 \\ \times 2 \\ \hline 652 \end{array}$

5.  $\begin{array}{r} 164 \\ \times 2 \\ \hline 328 \end{array}$

6.  $\begin{array}{r} 394 \\ \times 2 \\ \hline 788 \end{array}$

7.  $310 \times 8 = \underline{2480}$

8.  $349 \times 2 = \underline{698}$

9.  $393 \times 2 = \underline{786}$

10.  $235 \times 2 = \underline{470}$

11.  $115 \times 5 = \underline{575}$

12.  $211 \times 5 = \underline{1055}$

13.  $\begin{array}{r} 123 \\ \times 4 \\ \hline 492 \end{array}$

14.  $\begin{array}{r} 131 \\ \times 7 \\ \hline 917 \end{array}$

15.  $\begin{array}{r} 121 \\ \times 8 \\ \hline 968 \end{array}$

16.  $\begin{array}{r} 113 \\ \times 6 \\ \hline 678 \end{array}$

17.  $\begin{array}{r} 501 \\ \times 7 \\ \hline 3507 \end{array}$

18.  $\begin{array}{r} 151 \\ \times 6 \\ \hline 906 \end{array}$

19.  $\begin{array}{r} 118 \\ \times 5 \\ \hline 590 \end{array}$

20.  $\begin{array}{r} 150 \\ \times 8 \\ \hline 1200 \end{array}$

21.  $\begin{array}{r} 493 \\ \times 2 \\ \hline 986 \end{array}$

22.  $\begin{array}{r} 902 \\ \times 4 \\ \hline 3608 \end{array}$

23.  $\begin{array}{r} 132 \\ \times 4 \\ \hline 528 \end{array}$

24.  $\begin{array}{r} 228 \\ \times 3 \\ \hline 684 \end{array}$

25.  $\begin{array}{r} 251 \\ \times 3 \\ \hline 753 \end{array}$


26.  $\begin{array}{r} 112 \\ \times 7 \\ \hline 784 \end{array}$

27.  $\begin{array}{r} 316 \\ \times 2 \\ \hline 632 \end{array}$

28.  $\begin{array}{r} 231 \\ \times 4 \\ \hline 924 \end{array}$

29.  $\begin{array}{r} 300 \\ \times 5 \\ \hline 1500 \end{array}$

30.  $\begin{array}{r} 108 \\ \times 6 \\ \hline 648 \end{array}$



31.  $\begin{array}{r} 924 \\ \times 3 \\ \hline 2772 \end{array}$

32.  $\begin{array}{r} 753 \\ \times 5 \\ \hline 3765 \end{array}$

33.  $\begin{array}{r} 648 \\ \times 12 \\ \hline 7776 \end{array}$

34.  $\begin{array}{r} 500 \\ \times 13 \\ \hline 6500 \end{array}$

35.  $\begin{array}{r} 632 \\ \times 8 \\ \hline 5056 \end{array}$

36.  $\begin{array}{r} 784 \\ \times 9 \\ \hline 7065 \end{array}$



کارڈ نمبر: 24

جماعت سوم

1.  $3 \times 25 = \underline{\hspace{2cm}}$

2.  $6 \times 16 = \underline{\hspace{2cm}}$

3.  $4 \times 523 = \underline{\hspace{2cm}}$

4.  $3 \times 41 = \underline{\hspace{2cm}}$

5.  $2 \times 28 = \underline{\hspace{2cm}}$

6.  $7 \times 18 = \underline{\hspace{2cm}}$

7.  $7 \times 213 = \underline{\hspace{2cm}}$

8.  $3 \times 416 = \underline{\hspace{2cm}}$

9.  $4 \times 62 = \underline{\hspace{2cm}}$

10.  $3 \times 27 = \underline{\hspace{2cm}}$

11.  $5 \times 21 = \underline{\hspace{2cm}}$

12.  $7 \times 840 = \underline{\hspace{2cm}}$

13.  $3 \times 26 = \underline{\hspace{2cm}}$

14.  $2 \times 964 = \underline{\hspace{2cm}}$

15.  $5 \times 15 = \underline{\hspace{2cm}}$

16.  $6 \times 41 = \underline{\hspace{2cm}}$

17.  $9 \times 351 = \underline{\hspace{2cm}}$

18.  $3 \times 82 = \underline{\hspace{2cm}}$

19. 
$$\begin{array}{r} 72 \\ \times 4 \\ \hline \end{array}$$

20. 
$$\begin{array}{r} 12 \\ \times 8 \\ \hline \end{array}$$

21. 
$$\begin{array}{r} 83 \\ \times 2 \\ \hline \end{array}$$

22. 
$$\begin{array}{r} 651 \\ \times 4 \\ \hline \end{array}$$

23. 
$$\begin{array}{r} 17 \\ \times 5 \\ \hline \end{array}$$

24. 
$$\begin{array}{r} 573 \\ \times 3 \\ \hline \end{array}$$

25. 
$$\begin{array}{r} 60 \\ \times 7 \\ \hline \end{array}$$

26. 
$$\begin{array}{r} 39 \\ \times 2 \\ \hline \end{array}$$

27. 
$$\begin{array}{r} 16 \\ \times 6 \\ \hline \end{array}$$

28. 
$$\begin{array}{r} 84 \\ \times 2 \\ \hline \end{array}$$

29. 
$$\begin{array}{r} 727 \\ \times 3 \\ \hline \end{array}$$

30. 
$$\begin{array}{r} 461 \\ \times 9 \\ \hline \end{array}$$

31. 
$$\begin{array}{r} 47 \\ \times 2 \\ \hline \end{array}$$

32. 
$$\begin{array}{r} 281 \\ \times 9 \\ \hline \end{array}$$

33. 
$$\begin{array}{r} 13 \\ \times 7 \\ \hline \end{array}$$

34. 
$$\begin{array}{r} 12 \\ \times 8 \\ \hline \end{array}$$

35. 
$$\begin{array}{r} 21 \\ \times 9 \\ \hline \end{array}$$

36. 
$$\begin{array}{r} 37 \\ \times 2 \\ \hline \end{array}$$

37. 
$$\begin{array}{r} 871 \\ \times 5 \\ \hline \end{array}$$

38. 
$$\begin{array}{r} 916 \\ \times 2 \\ \hline \end{array}$$

کارڈ نمبر: 24

جماعت سوم

### جوابات

1.  $3 \times 25 = \underline{75}$       2.  $6 \times 16 = \underline{96}$       3.  $4 \times 523 = \underline{2092}$   
4.  $3 \times 41 = \underline{123}$       5.  $2 \times 28 = \underline{56}$       6.  $7 \times 18 = \underline{126}$   
7.  $7 \times 213 = \underline{1491}$       8.  $3 \times 416 = \underline{\quad}$       9.  $4 \times 62 = \underline{\quad}$   
10.  $3 \times 27 = \underline{81}$       11.  $5 \times 21 = \underline{105}$       12.  $7 \times 840 = \underline{5880}$   
13.  $3 \times 26 = \underline{78}$       14.  $2 \times 964 = \underline{1928}$       15.  $5 \times 15 = \underline{75}$   
16.  $6 \times 41 = \underline{246}$       17.  $9 \times 351 = \underline{3159}$       18.  $3 \times 82 = \underline{246}$

19. 
$$\begin{array}{r} 72 \\ \times 4 \\ \hline 288 \end{array}$$

20. 
$$\begin{array}{r} 12 \\ \times 8 \\ \hline 96 \end{array}$$

21. 
$$\begin{array}{r} 83 \\ \times 2 \\ \hline 166 \end{array}$$

22. 
$$\begin{array}{r} 651 \\ \times 4 \\ \hline 2604 \end{array}$$

23. 
$$\begin{array}{r} 17 \\ \times 5 \\ \hline 85 \end{array}$$

24. 
$$\begin{array}{r} 573 \\ \times 3 \\ \hline 1719 \end{array}$$

25. 
$$\begin{array}{r} 60 \\ \times 7 \\ \hline 420 \end{array}$$

26. 
$$\begin{array}{r} 39 \\ \times 2 \\ \hline 78 \end{array}$$

27. 
$$\begin{array}{r} 16 \\ \times 6 \\ \hline 96 \end{array}$$

28. 
$$\begin{array}{r} 84 \\ \times 2 \\ \hline 168 \end{array}$$

29. 
$$\begin{array}{r} 727 \\ \times 3 \\ \hline 2181 \end{array}$$

30. 
$$\begin{array}{r} 461 \\ \times 9 \\ \hline 4149 \end{array}$$

31. 
$$\begin{array}{r} 47 \\ \times 2 \\ \hline 94 \end{array}$$

32. 
$$\begin{array}{r} 281 \\ \times 9 \\ \hline 2529 \end{array}$$

33. 
$$\begin{array}{r} 13 \\ \times 7 \\ \hline 91 \end{array}$$

34. 
$$\begin{array}{r} 12 \\ \times 8 \\ \hline 96 \end{array}$$

35. 
$$\begin{array}{r} 21 \\ \times 9 \\ \hline 189 \end{array}$$

36. 
$$\begin{array}{r} 37 \\ \times 2 \\ \hline 74 \end{array}$$

37. 
$$\begin{array}{r} 871 \\ \times 5 \\ \hline 4355 \end{array}$$

38. 
$$\begin{array}{r} 916 \\ \times 2 \\ \hline 1832 \end{array}$$

کارڈ نمبر: 25

جماعت سوم

1.  $\begin{array}{r} 3 \\ \times 1 \\ \hline \end{array}$       2.  $\begin{array}{r} 2 \\ \times 4 \\ \hline \end{array}$       3.  $\begin{array}{r} 2 \\ \times 7 \\ \hline \end{array}$       4.  $\begin{array}{r} 2 \\ \times 3 \\ \hline \end{array}$       5.  $\begin{array}{r} 2 \\ \times 8 \\ \hline \end{array}$       6.  $\begin{array}{r} 2 \\ \times 9 \\ \hline \end{array}$       7.  $\begin{array}{r} 3 \\ \times 5 \\ \hline \end{array}$
8.  $\begin{array}{r} 3 \\ \times 4 \\ \hline \end{array}$       9.  $\begin{array}{r} 2 \\ \times 5 \\ \hline \end{array}$       10.  $\begin{array}{r} 2 \\ \times 6 \\ \hline \end{array}$       11.  $\begin{array}{r} 3 \\ \times 3 \\ \hline \end{array}$       12.  $\begin{array}{r} 2 \\ \times 2 \\ \hline \end{array}$       13.  $\begin{array}{r} 3 \\ \times 7 \\ \hline \end{array}$       14.  $\begin{array}{r} 3 \\ \times 8 \\ \hline \end{array}$
15.  $9 \times 2$       16.  $7 \times 3$       17.  $9 \times 3$       18.  $7 \times 2$       19.  $6 \times 2$   
20.  $4 \times 3$       21.  $5 \times 2$       22.  $6 \times 3$       23.  $8 \times 2$       24.  $2 \times 3$   
25.  $9 \times 2$       26.  $8 \times 3$       27.  $7 \times 2$       28.  $6 \times 3$       29.  $5 \times 3$   
30.  $4 \times 2$       31.  $9 \times 3$       32.  $6 \times 2$       33.  $7 \times 3$       34.  $8 \times 2$

35.  $\begin{array}{r} 97 \\ \times 8 \\ \hline \end{array}$       36.  $\begin{array}{r} 85 \\ \times 3 \\ \hline \end{array}$       37.  $\begin{array}{r} 69 \\ \times 9 \\ \hline \end{array}$       38.  $\begin{array}{r} 3263 \\ \times 7 \\ \hline \end{array}$

39.  $6 \times 86$       40.  $5 \times 49$       41.  $3 \times 66$       42.  $8 \times 78$       43.  $9 \times 34$   
44.  $5 \times 873$       45.  $7 \times 492$       46.  $4 \times 673$       47.  $6 \times 909$       48.  $3 \times 588$

49.  $\begin{array}{r} 963 \\ \times 5 \\ \hline \end{array}$       50.  $\begin{array}{r} 855 \\ \times 8 \\ \hline \end{array}$       51.  $\begin{array}{r} 919 \\ \times 4 \\ \hline \end{array}$       52.  $\begin{array}{r} 494 \\ \times 9 \\ \hline \end{array}$       53.  $\begin{array}{r} 729 \\ \times 6 \\ \hline \end{array}$

54.  $\begin{array}{r} 76 \\ \times 5 \\ \hline \end{array}$       55.  $\begin{array}{r} 99 \\ \times 3 \\ \hline \end{array}$       56.  $\begin{array}{r} 64 \\ \times 8 \\ \hline \end{array}$       57.  $\begin{array}{r} 96 \\ \times 2 \\ \hline \end{array}$       58.  $\begin{array}{r} 74 \\ \times 6 \\ \hline \end{array}$

59.  $\begin{array}{r} 347 \\ \times 7 \\ \hline \end{array}$       60.  $\begin{array}{r} 692 \\ \times 2 \\ \hline \end{array}$       61.  $\begin{array}{r} 3981 \\ \times 7 \\ \hline \end{array}$       62.  $\begin{array}{r} 9999 \\ \times 4 \\ \hline \end{array}$       63.  $\begin{array}{r} 6845 \\ \times 9 \\ \hline \end{array}$

کارڈ نمبر: 25

جماعت سوم

## جوابات

$$\begin{array}{r} 1. \quad 3 \\ \times 1 \\ \hline 3 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 2. \quad 2 \\ \times 4 \\ \hline 8 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 3. \quad 2 \\ \times 7 \\ \hline 14 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 4. \quad 2 \\ \times 3 \\ \hline 6 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 5. \quad 2 \\ \times 8 \\ \hline 16 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 6. \quad 2 \\ \times 9 \\ \hline 18 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 7. \quad 3 \\ \times 5 \\ \hline 15 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 8. \quad 3 \\ \times 4 \\ \hline 12 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 9. \quad 2 \\ \times 5 \\ \hline 10 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 10. \quad 2 \\ \times 6 \\ \hline 12 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 11. \quad 3 \\ \times 3 \\ \hline 9 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 12. \quad 2 \\ \times 2 \\ \hline 4 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 13. \quad 3 \\ \times 7 \\ \hline 21 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 14. \quad 3 \\ \times 8 \\ \hline 24 \end{array}$$

$$15. 9 \times 2 = 18$$

$$16. 7 \times 3 = 21$$

$$17. 9 \times 3 = 27$$

$$18. 7 \times 2 = 14$$

$$19. 6 \times 2 = 12$$

$$20. 4 \times 3 = 12$$

$$21. 5 \times 2 = 10$$

$$22. 6 \times 3 = 18$$

$$23. 8 \times 2 = 16$$

$$24. 2 \times 3 = 6$$

$$25. 9 \times 2 = 18$$

$$26. 8 \times 3 = 24$$

$$27. 7 \times 2 = 14$$

$$28. 6 \times 3 = 18$$

$$29. 5 \times 3 = 15$$

$$30. 4 \times 2 = 8$$

$$31. 9 \times 3 = 27$$

$$32. 6 \times 2 = 12$$

$$33. 7 \times 3 = 21$$

$$34. 8 \times 2 = 16$$

$$\begin{array}{r} 35. \quad 97 \\ \times 8 \\ \hline 776 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 36. \quad 85 \\ \times 3 \\ \hline 255 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 37. \quad 69 \\ \times 9 \\ \hline 251 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 38. \quad 63 \\ \times 7 \\ \hline 441 \end{array}$$

$$39. 6 \times 86 = 516 \quad 40. 5 \times 49 = 245 \quad 41. 3 \times 66 = 198 \quad 42. 8 \times 78 = 624 \quad 43. 9 \times 31 = 306$$

$$44. 5 \times 873 = 4365 \quad 45. 7 \times 492 = 3444 \quad 46. 4 \times 673 = 2692 \quad 47. 6 \times 909 = 5454 \quad 48. 3 \times 588 = 1764$$

$$\begin{array}{r} 49. \quad 963 \\ \times 5 \\ \hline 4815 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 50. \quad 855 \\ \times 8 \\ \hline 6840 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 51. \quad 919 \\ \times 4 \\ \hline 3676 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 52. \quad 494 \\ \times 9 \\ \hline 4440 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 53. \quad 729 \\ \times 6 \\ \hline 4374 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 54. \quad 76 \\ \times 5 \\ \hline 380 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 55. \quad 99 \\ \times 3 \\ \hline 297 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 56. \quad 64 \\ \times 8 \\ \hline 512 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 57. \quad 96 \\ \times 2 \\ \hline 192 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 58. \quad 74 \\ \times 6 \\ \hline 444 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 59. \quad 347 \\ \times 7 \\ \hline 2429 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 60. \quad 692 \\ \times 2 \\ \hline 1384 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 61. \quad 3981 \\ \times 7 \\ \hline 27867 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 62. \quad 9999 \\ \times 4 \\ \hline 39996 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 63. \quad 6845 \\ \times 9 \\ \hline 61605 \end{array}$$

1. 
$$\begin{array}{r} 10 \\ \times 3 \\ \hline \end{array}$$

2. 
$$\begin{array}{r} 80 \\ \times 2 \\ \hline \end{array}$$

3. 
$$\begin{array}{r} 12 \\ \times 5 \\ \hline \end{array}$$

4. 
$$\begin{array}{r} 61 \\ \times 1 \\ \hline \end{array}$$

5. 
$$\begin{array}{r} 45 \\ \times 2 \\ \hline \end{array}$$

6. 
$$\begin{array}{r} 59 \\ \times 3 \\ \hline \end{array}$$

7.  $3 \times 43 = \underline{\hspace{2cm}}$

8.  $5 \times 51 = \underline{\hspace{2cm}}$

9.  $7 \times 86 = \underline{\hspace{2cm}}$

10.  $5 \times 62 = \underline{\hspace{2cm}}$

11. 
$$\begin{array}{r} 38 \\ \times 6 \\ \hline \end{array}$$

12. 
$$\begin{array}{r} 94 \\ \times 5 \\ \hline \end{array}$$

13. 
$$\begin{array}{r} 414 \\ \times 7 \\ \hline \end{array}$$

14. 
$$\begin{array}{r} 868 \\ \times 7 \\ \hline \end{array}$$

15. 
$$\begin{array}{r} 86 \\ \times 4 \\ \hline \end{array}$$

16. 
$$\begin{array}{r} 48 \\ \times 9 \\ \hline \end{array}$$

17. 
$$\begin{array}{r} 360 \\ \times 7 \\ \hline \end{array}$$

18. 
$$\begin{array}{r} 939 \\ \times 9 \\ \hline \end{array}$$

19. 
$$\begin{array}{r} 300 \\ \times 8 \\ \hline \end{array}$$

20. 
$$\begin{array}{r} 421 \\ \times 2 \\ \hline \end{array}$$

21. 
$$\begin{array}{r} 512 \\ \times 3 \\ \hline \end{array}$$

22. 
$$\begin{array}{r} 709 \\ \times 4 \\ \hline \end{array}$$

23. 
$$\begin{array}{r} 248 \\ \times 5 \\ \hline \end{array}$$

24. 
$$\begin{array}{r} 626 \\ \times 3 \\ \hline \end{array}$$

25. 
$$\begin{array}{r} 610 \\ \times 2 \\ \hline \end{array}$$

26. 
$$\begin{array}{r} 535 \\ \times 3 \\ \hline \end{array}$$

27.  $46 \times 5 = \underline{\hspace{2cm}}$

28.  $69 \times 4 = \underline{\hspace{2cm}}$

29.  $211 \times 2 = \underline{\hspace{2cm}}$

30.  $315 \times 3 = \underline{\hspace{2cm}}$

## جوابات

1. 
$$\begin{array}{r} 10 \\ \times 3 \\ \hline 30 \end{array}$$

2. 
$$\begin{array}{r} 80 \\ \times 2 \\ \hline 160 \end{array}$$

3. 
$$\begin{array}{r} 12 \\ \times 5 \\ \hline 60 \end{array}$$

4. 
$$\begin{array}{r} 61 \\ \times 1 \\ \hline 61 \end{array}$$

5. 
$$\begin{array}{r} 45 \\ \times 2 \\ \hline 90 \end{array}$$

6. 
$$\begin{array}{r} 59 \\ \times 3 \\ \hline 177 \end{array}$$

7.  $3 \times 43 = \underline{129}$

8.  $5 \times 51 = \underline{255}$

9.  $7 \times 86 = \underline{582}$

10.  $5 \times 62 = \underline{310}$

11. 
$$\begin{array}{r} 38 \\ \times 6 \\ \hline 228 \end{array}$$

12. 
$$\begin{array}{r} 94 \\ \times 5 \\ \hline 470 \end{array}$$

13. 
$$\begin{array}{r} 414 \\ \times 7 \\ \hline 2898 \end{array}$$

14. 
$$\begin{array}{r} 868 \\ \times 7 \\ \hline 6076 \end{array}$$

15. 
$$\begin{array}{r} 86 \\ \times 4 \\ \hline 344 \end{array}$$

16. 
$$\begin{array}{r} 48 \\ \times 9 \\ \hline 432 \end{array}$$

17. 
$$\begin{array}{r} 360 \\ \times 7 \\ \hline 2520 \end{array}$$

18. 
$$\begin{array}{r} 939 \\ \times 9 \\ \hline 8451 \end{array}$$

19. 
$$\begin{array}{r} 300 \\ \times 8 \\ \hline 2400 \end{array}$$

20. 
$$\begin{array}{r} 421 \\ \times 2 \\ \hline 842 \end{array}$$

21. 
$$\begin{array}{r} 512 \\ \times 3 \\ \hline 1536 \end{array}$$

22. 
$$\begin{array}{r} 709 \\ \times 4 \\ \hline 2836 \end{array}$$

23. 
$$\begin{array}{r} 248 \\ \times 5 \\ \hline 1240 \end{array}$$

24. 
$$\begin{array}{r} 626 \\ \times 3 \\ \hline 1878 \end{array}$$

25. 
$$\begin{array}{r} 610 \\ \times 2 \\ \hline 1220 \end{array}$$

26. 
$$\begin{array}{r} 535 \\ \times 3 \\ \hline 1605 \end{array}$$

27.  $46 \times 5 = \underline{230}$

28.  $69 \times 4 = \underline{276}$

29.  $211 \times 2 = \underline{422}$

30.  $315 \times 3 = \underline{945}$

1.  $3 \times 8 = \underline{\hspace{2cm}}$

$7 \times 4 = \underline{\hspace{2cm}}$

2.  $2 \times 6 = \underline{\hspace{2cm}}$

$5 \times 4 = \underline{\hspace{2cm}}$

3.  $4 \times 7 = \underline{\hspace{2cm}}$

$8 \times 3 = \underline{\hspace{2cm}}$

4.  $2 \times 9 = \underline{\hspace{2cm}}$

$9 \times 2 = \underline{\hspace{2cm}}$

5.  $4 \times 5 = \underline{\hspace{2cm}}$

$6 \times 2 = \underline{\hspace{2cm}}$

6. 
$$\begin{array}{r} 0 \\ \times 2 \\ \hline \end{array}$$

7. 
$$\begin{array}{r} 5 \\ \times 1 \\ \hline \end{array}$$

8. 
$$\begin{array}{r} 7 \\ \times 0 \\ \hline \end{array}$$

9. 
$$\begin{array}{r} 1 \\ \times 9 \\ \hline \end{array}$$

10. 
$$\begin{array}{r} 6 \\ \times 1 \\ \hline \end{array}$$

11. 
$$\begin{array}{r} 0 \\ \times 0 \\ \hline \end{array}$$

12. 
$$\begin{array}{r} 3 \\ \times 7 \\ \hline \end{array}$$

13. 
$$\begin{array}{r} 1 \\ \times 0 \\ \hline \end{array}$$

14.  $2 \times 8 = \underline{\hspace{2cm}}$

15.  $9 \times 3 = \underline{\hspace{2cm}}$

16.  $4 \times 6 = \underline{\hspace{2cm}}$

17.  $5 \times 0 = \underline{\hspace{2cm}}$

18. 
$$\begin{array}{r} 129 \\ \times 3 \\ \hline \end{array}$$

19. 
$$\begin{array}{r} 228 \\ \times 2 \\ \hline \end{array}$$

20. 
$$\begin{array}{r} 309 \\ \times 3 \\ \hline \end{array}$$

21. 
$$\begin{array}{r} 270 \\ \times 3 \\ \hline \end{array}$$

22. 
$$\begin{array}{r} 463 \\ \times 2 \\ \hline \end{array}$$

23. 
$$\begin{array}{r} 721 \\ \times 3 \\ \hline \end{array}$$

24. 
$$\begin{array}{r} 613 \\ \times 2 \\ \hline \end{array}$$

25. 
$$\begin{array}{r} 911 \\ \times 6 \\ \hline \end{array}$$

26. 
$$\begin{array}{r} 603 \\ \times 3 \\ \hline \end{array}$$

27. 
$$\begin{array}{r} 820 \\ \times 2 \\ \hline \end{array}$$

28. 
$$\begin{array}{r} 900 \\ \times 8 \\ \hline \end{array}$$

29. 
$$\begin{array}{r} 123 \\ \times 4 \\ \hline \end{array}$$

30. 
$$\begin{array}{r} 102 \\ \times 6 \\ \hline \end{array}$$

31. 
$$\begin{array}{r} 217 \\ \times 4 \\ \hline \end{array}$$

32. 
$$\begin{array}{r} 711 \\ \times 8 \\ \hline \end{array}$$

33. 
$$\begin{array}{r} 802 \\ \times 4 \\ \hline \end{array}$$

34. 
$$\begin{array}{r} 243 \\ \times 3 \\ \hline \end{array}$$

35. 
$$\begin{array}{r} 107 \\ \times 7 \\ \hline \end{array}$$

36. 
$$\begin{array}{r} 121 \\ \times 8 \\ \hline \end{array}$$

37. 
$$\begin{array}{r} 804 \\ \times 2 \\ \hline \end{array}$$

کارڈ نمبر: 27

جماعت سوم

## جوابات

1.  $3 \times 8 = \underline{24}$

$7 \times 4 = \underline{28}$

2.  $2 \times 6 = \underline{12}$

$5 \times 4 = \underline{20}$

3.  $4 \times 7 = \underline{28}$

$8 \times 3 = \underline{24}$

4.  $2 \times 9 = \underline{18}$

$9 \times 2 = \underline{18}$

5.  $4 \times 5 = \underline{20}$

$6 \times 2 = \underline{12}$

6. 
$$\begin{array}{r} 0 \\ \times 2 \\ \hline 0 \end{array}$$

7. 
$$\begin{array}{r} 5 \\ \times 1 \\ \hline 5 \end{array}$$

8. 
$$\begin{array}{r} 7 \\ \times 0 \\ \hline 0 \end{array}$$

9. 
$$\begin{array}{r} 1 \\ \times 9 \\ \hline 9 \end{array}$$

10. 
$$\begin{array}{r} 6 \\ \times 1 \\ \hline 6 \end{array}$$

11. 
$$\begin{array}{r} 0 \\ \times 0 \\ \hline 0 \end{array}$$

12. 
$$\begin{array}{r} 3 \\ \times 7 \\ \hline 21 \end{array}$$

13. 
$$\begin{array}{r} 1 \\ \times 0 \\ \hline 1 \end{array}$$

14.  $2 \times 8 = \underline{16}$

15.  $9 \times 3 = \underline{27}$

16.  $4 \times 6 = \underline{24}$

17.  $5 \times 0 = \underline{0}$

18. 
$$\begin{array}{r} 120 \\ \times 3 \\ \hline 360 \end{array}$$

19. 
$$\begin{array}{r} 228 \\ \times 2 \\ \hline 456 \end{array}$$

20. 
$$\begin{array}{r} 309 \\ \times 3 \\ \hline 927 \end{array}$$

21. 
$$\begin{array}{r} 270 \\ \times 3 \\ \hline 810 \end{array}$$

22. 
$$\begin{array}{r} 463 \\ \times 2 \\ \hline 926 \end{array}$$

23. 
$$\begin{array}{r} 721 \\ \times 3 \\ \hline 2163 \end{array}$$

24. 
$$\begin{array}{r} 613 \\ \times 2 \\ \hline 1226 \end{array}$$

25. 
$$\begin{array}{r} 911 \\ \times 6 \\ \hline 5466 \end{array}$$

26. 
$$\begin{array}{r} 603 \\ \times 3 \\ \hline 1809 \end{array}$$

27. 
$$\begin{array}{r} 820 \\ \times 2 \\ \hline 1640 \end{array}$$

28. 
$$\begin{array}{r} 900 \\ \times 8 \\ \hline 7200 \end{array}$$

29. 
$$\begin{array}{r} 123 \\ \times 4 \\ \hline 492 \end{array}$$

30. 
$$\begin{array}{r} 102 \\ \times 6 \\ \hline 612 \end{array}$$

31. 
$$\begin{array}{r} 217 \\ \times 4 \\ \hline 868 \end{array}$$

32. 
$$\begin{array}{r} 711 \\ \times 8 \\ \hline 5688 \end{array}$$

33. 
$$\begin{array}{r} 802 \\ \times 4 \\ \hline 3208 \end{array}$$

34. 
$$\begin{array}{r} 243 \\ \times 3 \\ \hline 729 \end{array}$$

35. 
$$\begin{array}{r} 107 \\ \times 7 \\ \hline 749 \end{array}$$

36. 
$$\begin{array}{r} 121 \\ \times 8 \\ \hline 968 \end{array}$$

37. 
$$\begin{array}{r} 804 \\ \times 2 \\ \hline 1608 \end{array}$$



کارڈ نمبر: 28

جماعت سوم

$$\begin{array}{r} 352 \\ \times 4 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 352 \\ \times 4 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 352 \\ \times 4 \\ \hline \end{array}$$

$$1. \begin{array}{r} 381 \\ \times 4 \\ \hline \end{array}$$

$$2. \begin{array}{r} 617 \\ \times 2 \\ \hline \end{array}$$

$$3. \begin{array}{r} 807 \\ \times 5 \\ \hline \end{array}$$

$$4. \begin{array}{r} 275 \\ \times 3 \\ \hline \end{array}$$

$$5. \begin{array}{r} 521 \\ \times 6 \\ \hline \end{array}$$

$$6. \begin{array}{r} 261 \\ \times 5 \\ \hline \end{array}$$

$$7. \begin{array}{r} 392 \\ \times 4 \\ \hline \end{array}$$

$$8. \begin{array}{r} 608 \\ \times 2 \\ \hline \end{array}$$

$$9. \begin{array}{r} 417 \\ \times 3 \\ \hline \end{array}$$

$$10. \begin{array}{r} 572 \\ \times 3 \\ \hline \end{array}$$

$$11. \begin{array}{r} 729 \\ \times 3 \\ \hline \end{array}$$

$$12. \begin{array}{r} 615 \\ \times 4 \\ \hline \end{array}$$

$$13. \begin{array}{r} 852 \\ \times 3 \\ \hline \end{array}$$

$$14. \begin{array}{r} 805 \\ \times 4 \\ \hline \end{array}$$

$$15. \begin{array}{r} 653 \\ \times 2 \\ \hline \end{array}$$

$$16. \begin{array}{r} 227 \\ \times 4 \\ \hline \end{array}$$

$$17. \begin{array}{r} 541 \\ \times 6 \\ \hline \end{array}$$

$$18. \begin{array}{r} 709 \\ \times 3 \\ \hline \end{array}$$

$$19. \begin{array}{r} 403 \\ \times 7 \\ \hline \end{array}$$

$$20. \begin{array}{r} 387 \\ \times 2 \\ \hline \end{array}$$

$$21. 8 \times 116 = \underline{\quad}$$

$$22. 6 \times 209 = \underline{\quad}$$

$$23. 5 \times 195 = \underline{\quad}$$

$$24. 7 \times 761 = \underline{\quad}$$

$$25. 5 \times 516 = \underline{\quad}$$

$$26. 6 \times 148 = \underline{\quad}$$

$$27. 2 \times 861 = \underline{\quad}$$

$$28. 9 \times 209 = \underline{\quad}$$

$$29. 4 \times 167 = \underline{\quad}$$

$$30. 8 \times 450 = \underline{\quad}$$

$$31. 7 \times 409 = \underline{\quad}$$

$$32. 6 \times 137 = \underline{\quad}$$

کارڈ نمبر: 28

جماعت سوم

جوابات

$$\begin{array}{r} 352 \\ \times 4 \\ \hline 8 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 352 \\ \times 4 \\ \hline 08 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 352 \\ \times 4 \\ \hline 1408 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1. \quad 381 \\ \times 4 \\ \hline 1524 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 2. \quad 617 \\ \times 2 \\ \hline 1234 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 3. \quad 807 \\ \times 5 \\ \hline 4035 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 4. \quad 275 \\ \times 3 \\ \hline 825 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 5. \quad 521 \\ \times 6 \\ \hline 3126 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 6. \quad 261 \\ \times 5 \\ \hline 1305 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 7. \quad 392 \\ \times 4 \\ \hline 1568 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 8. \quad 608 \\ \times 2 \\ \hline 1216 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 9. \quad 417 \\ \times 3 \\ \hline 1251 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 10. \quad 572 \\ \times 3 \\ \hline 1716 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 11. \quad 729 \\ \times 3 \\ \hline 2187 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 12. \quad 615 \\ \times 4 \\ \hline 2460 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 13. \quad 852 \\ \times 3 \\ \hline 2556 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 14. \quad 805 \\ \times 4 \\ \hline 3220 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 15. \quad 653 \\ \times 2 \\ \hline 1306 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 16. \quad 227 \\ \times 4 \\ \hline 908 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 17. \quad 541 \\ \times 6 \\ \hline 3246 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 18. \quad 709 \\ \times 3 \\ \hline 2127 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 19. \quad 403 \\ \times 7 \\ \hline 2821 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 20. \quad 387 \\ \times 2 \\ \hline 774 \end{array}$$

$$21. \quad 8 \times 116 = \underline{928}$$

$$22. \quad 6 \times 209 = \underline{1254}$$

$$23. \quad 5 \times 195 = \underline{975}$$

$$24. \quad 7 \times 761 = \underline{5327}$$

$$25. \quad 5 \times 516 = \underline{2580}$$

$$26. \quad 6 \times 148 = \underline{888}$$

$$27. \quad 2 \times 861 = \underline{1722}$$

$$28. \quad 9 \times 209 = \underline{1881}$$

$$29. \quad 4 \times 167 = \underline{668}$$

$$30. \quad 8 \times 450 = \underline{3600}$$

$$31. \quad 7 \times 409 = \underline{2863}$$

$$32. \quad 6 \times 137 = \underline{822}$$

کاور نمبر: 29

جماعت سوم

1.  $\begin{array}{r} 573 \\ \times 3 \\ \hline \end{array}$

2.  $\begin{array}{r} 909 \\ \times 7 \\ \hline \end{array}$

3.  $\begin{array}{r} 414 \\ \times 5 \\ \hline \end{array}$

4.  $\begin{array}{r} 212 \\ \times 8 \\ \hline \end{array}$

5.  $\begin{array}{r} 937 \\ \times 2 \\ \hline \end{array}$

6.  $\begin{array}{r} 529 \\ \times 2 \\ \hline \end{array}$

7.  $2 \times 574 = \underline{\hspace{2cm}}$

8.  $6 \times 701 = \underline{\hspace{2cm}}$

9.  $6 \times 166 = \underline{\hspace{2cm}}$

10.  $4 \times 319 = \underline{\hspace{2cm}}$

11.  $4 \times 134 = \underline{\hspace{2cm}}$

12.  $3 \times 817 = \underline{\hspace{2cm}}$

13.  $7 \times 521 = \underline{\hspace{2cm}}$

14.  $5 \times 158 = \underline{\hspace{2cm}}$

15.  $2 \times 399 = \underline{\hspace{2cm}}$

16.  $\begin{array}{r} 343 \\ \times 5 \\ \hline \end{array}$

17.  $\begin{array}{r} 712 \\ \times 6 \\ \hline \end{array}$

18.  $\begin{array}{r} 671 \\ \times 9 \\ \hline \end{array}$

19.  $\begin{array}{r} 641 \\ \times 4 \\ \hline \end{array}$

20.  $\begin{array}{r} 430 \\ \times 6 \\ \hline \end{array}$

21.  $\begin{array}{r} 355 \\ \times 2 \\ \hline \end{array}$

22.  $5 \times 206 = \underline{\hspace{2cm}}$

23.  $3 \times 973 = \underline{\hspace{2cm}}$

24.  $7 \times 139 = \underline{\hspace{2cm}}$

25.  $3 \times 199 = \underline{\hspace{2cm}}$

26.  $4 \times 157 = \underline{\hspace{2cm}}$

27.  $4 \times 906 = \underline{\hspace{2cm}}$

28.  $\begin{array}{r} 619 \\ \times 2 \\ \hline \end{array}$

29.  $\begin{array}{r} 488 \\ \times 2 \\ \hline \end{array}$

30.  $\begin{array}{r} 703 \\ \times 7 \\ \hline \end{array}$

31.  $\begin{array}{r} 529 \\ \times 3 \\ \hline \end{array}$

32.  $\begin{array}{r} 371 \\ \times 6 \\ \hline \end{array}$

33.  $\begin{array}{r} 842 \\ \times 3 \\ \hline \end{array}$

34.  $\begin{array}{r} 141 \\ \times 6 \\ \hline \end{array}$

35.  $\begin{array}{r} 181 \\ \times 4 \\ \hline \end{array}$

36.  $\begin{array}{r} 105 \\ \times 9 \\ \hline \end{array}$

کارڈ نمبر: 29

جماعت سوم

## جوابات

$$\begin{array}{r} 1. \quad 573 \\ \times \quad 3 \\ \hline 1719 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 2. \quad 909 \\ \times \quad 7 \\ \hline 6363 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 3. \quad 414 \\ \times \quad 5 \\ \hline 2070 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 4. \quad 212 \\ \times \quad 8 \\ \hline 1696 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 5. \quad 937 \\ \times \quad 2 \\ \hline 1874 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 6. \quad 529 \\ \times \quad 2 \\ \hline 1058 \end{array}$$

$$7. \quad 2 \times 574 = \underline{1148}$$

$$8. \quad 6 \times 701 = \underline{4206}$$

$$9. \quad 6 \times 166 = \underline{996}$$

$$10. \quad 4 \times 319 = \underline{1276}$$

$$11. \quad 4 \times 134 = \underline{536}$$

$$12. \quad 3 \times 817 = \underline{2451}$$

$$13. \quad 7 \times 521 = \underline{3647}$$

$$14. \quad 5 \times 158 = \underline{790}$$

$$15. \quad 2 \times 399 = \underline{798}$$

$$\begin{array}{r} 16. \quad 343 \\ \times \quad 5 \\ \hline 1715 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 17. \quad 712 \\ \times \quad 6 \\ \hline 4272 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 18. \quad 671 \\ \times \quad 9 \\ \hline 6039 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 19. \quad 641 \\ \times \quad 4 \\ \hline 2564 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 20. \quad 430 \\ \times \quad 6 \\ \hline 2580 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 21. \quad 355 \\ \times \quad 2 \\ \hline 710 \end{array}$$

$$22. \quad 5 \times 206 = \underline{1030}$$

$$23. \quad 3 \times 973 = \underline{2919}$$

$$24. \quad 7 \times 139 = \underline{973}$$

$$25. \quad 3 \times 199 = \underline{597}$$

$$26. \quad 4 \times 157 = \underline{628}$$

$$27. \quad 4 \times 906 = \underline{3624}$$

$$\begin{array}{r} 28. \quad 619 \\ \times \quad 2 \\ \hline 1238 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 29. \quad 488 \\ \times \quad 2 \\ \hline 976 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 30. \quad 703 \\ \times \quad 7 \\ \hline 4921 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 31. \quad 529 \\ \times \quad 3 \\ \hline 1587 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 32. \quad 371 \\ \times \quad 6 \\ \hline 2226 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 33. \quad 842 \\ \times \quad 3 \\ \hline 2526 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 34. \quad 141 \\ \times \quad 6 \\ \hline 846 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 35. \quad 181 \\ \times \quad 4 \\ \hline 724 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 36. \quad 105 \\ \times \quad 9 \\ \hline 945 \end{array}$$

کارڈ نمبر: 14

جماعت سوم

حل کریں

- |                       |                       |                       |                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| $6 \times 4 =$ _____  | $6 \times 12 =$ _____ | $7 \times 5 =$ _____  | $6 \times 3 =$ _____  | $1 \times 7 =$ _____  |
| $7 \times 4 =$ _____  | $3 \times 7 =$ _____  | $7 \times 3 =$ _____  | $2 \times 7 =$ _____  | $6 \times 11 =$ _____ |
| $6 \times 2 =$ _____  | $7 \times 7 =$ _____  | $4 \times 6 =$ _____  | $7 \times 6 =$ _____  | $11 \times 6 =$ _____ |
| $5 \times 6 =$ _____  | $4 \times 7 =$ _____  | $10 \times 6 =$ _____ | $6 \times 1 =$ _____  | $7 \times 2 =$ _____  |
| $12 \times 6 =$ _____ | $5 \times 7 =$ _____  | $6 \times 10 =$ _____ | $10 \times 6 =$ _____ | $6 \times 9 =$ _____  |
| $7 \times 10 =$ _____ | $7 \times 11 =$ _____ | $6 \times 5 =$ _____  | $6 \times 7 =$ _____  | $3 \times 6 =$ _____  |
| $1 \times 6 =$ _____  | $7 \times 12 =$ _____ | $7 \times 7 =$ _____  | $2 \times 6 =$ _____  | $7 \times 8 =$ _____  |
| $8 \times 7 =$ _____  | $7 \times 6 =$ _____  | $9 \times 7 =$ _____  | $6 \times 6 =$ _____  | $7 \times 9 =$ _____  |
| $10 \times 7 =$ _____ | $6 \times 7 =$ _____  | $8 \times 6 =$ _____  | $11 \times 7 =$ _____ | $9 \times 6 =$ _____  |
| $7 \times 9 =$ _____  | $7 \times 1 =$ _____  | $12 \times 7 =$ _____ | $6 \times 8 =$ _____  | $6 \times 9 =$ _____  |

کارڈ نمبر: 14

جماعت سوم

جوابات

$6 \times 4 = 24$

$6 \times 12 = 72$

$7 \times 5 = 35$

$6 \times 3 = 18$

$1 \times 7 = 7$

$7 \times 4 = 28$

$3 \times 7 = 21$

$7 \times 3 = 21$

$2 \times 7 = 14$

$6 \times 11 = 66$

$6 \times 2 = 12$

$7 \times 7 = 49$

$4 \times 6 = 24$

$7 \times 6 = 42$

$11 \times 6 = 66$

$5 \times 6 = 30$

$4 \times 7 = 28$

$10 \times 6 = 60$

$6 \times 1 = 6$

$7 \times 2 = 14$

$12 \times 6 = 72$

$5 \times 7 = 35$

$6 \times 10 = 60$

$10 \times 6 = 60$

$6 \times 9 = 54$

$7 \times 10 = 70$

$7 \times 11 = 77$

$6 \times 5 = 30$

$6 \times 7 = 42$

$3 \times 6 = 18$

$1 \times 6 = 6$

$7 \times 12 = 84$

$7 \times 7 = 49$

$2 \times 6 = 12$

$7 \times 8 = 56$

$8 \times 7 = 56$

$7 \times 6 = 42$

$9 \times 7 = 63$

$6 \times 6 = 36$

$7 \times 9 = 63$

$10 \times 7 = 70$

$6 \times 7 = 42$

$8 \times 6 = 48$

$11 \times 7 = 77$

$9 \times 6 = 54$

$7 \times 9 = 63$

$7 \times 1 = 7$

$12 \times 7 = 84$

$6 \times 8 = 48$

$6 \times 9 = 54$

کارڈ نمبر: 15

جماعت سوم

حل کریں

- $5 \times 1 = \underline{\hspace{2cm}}$      $1 \times 4 = \underline{\hspace{2cm}}$      $8 \times 5 = \underline{\hspace{2cm}}$      $5 \times 9 = \underline{\hspace{2cm}}$      $4 \times 3 = \underline{\hspace{2cm}}$
- $2 \times 4 = \underline{\hspace{2cm}}$      $4 \times 8 = \underline{\hspace{2cm}}$      $6 \times 4 = \underline{\hspace{2cm}}$      $7 \times 5 = \underline{\hspace{2cm}}$      $5 \times 4 = \underline{\hspace{2cm}}$
- $9 \times 5 = \underline{\hspace{2cm}}$      $5 \times 2 = \underline{\hspace{2cm}}$      $3 \times 4 = \underline{\hspace{2cm}}$      $4 \times 2 = \underline{\hspace{2cm}}$      $12 \times 5 = \underline{\hspace{2cm}}$
- $4 \times 1 = \underline{\hspace{2cm}}$      $11 \times 5 = \underline{\hspace{2cm}}$      $5 \times 8 = \underline{\hspace{2cm}}$      $5 \times 5 = \underline{\hspace{2cm}}$      $4 \times 7 = \underline{\hspace{2cm}}$
- $7 \times 4 = \underline{\hspace{2cm}}$      $6 \times 5 = \underline{\hspace{2cm}}$      $8 \times 4 = \underline{\hspace{2cm}}$      $5 \times 8 = \underline{\hspace{2cm}}$      $5 \times 7 = \underline{\hspace{2cm}}$
- $5 \times 3 = \underline{\hspace{2cm}}$      $4 \times 5 = \underline{\hspace{2cm}}$      $6 \times 4 = \underline{\hspace{2cm}}$      $4 \times 4 = \underline{\hspace{2cm}}$      $1 \times 5 = \underline{\hspace{2cm}}$
- $5 \times 4 = \underline{\hspace{2cm}}$      $4 \times 6 = \underline{\hspace{2cm}}$      $4 \times 9 = \underline{\hspace{2cm}}$      $2 \times 5 = \underline{\hspace{2cm}}$      $12 \times 4 = \underline{\hspace{2cm}}$
- $5 \times 10 = \underline{\hspace{2cm}}$      $5 \times 6 = \underline{\hspace{2cm}}$      $9 \times 4 = \underline{\hspace{2cm}}$      $5 \times 11 = \underline{\hspace{2cm}}$      $11 \times 4 = \underline{\hspace{2cm}}$
- $4 \times 11 = \underline{\hspace{2cm}}$      $10 \times 4 = \underline{\hspace{2cm}}$      $3 \times 5 = \underline{\hspace{2cm}}$      $4 \times 10 = \underline{\hspace{2cm}}$      $7 \times 4 = \underline{\hspace{2cm}}$
- $10 \times 5 = \underline{\hspace{2cm}}$      $4 \times 5 = \underline{\hspace{2cm}}$      $5 \times 12 = \underline{\hspace{2cm}}$      $8 \times 4 = \underline{\hspace{2cm}}$      $4 \times 12 = \underline{\hspace{2cm}}$

کارڈ نمبر: 15

جماعت سوم

## جوابات

$5 \times 1 = 5$

$1 \times 4 = 4$

$8 \times 5 = 40$

$5 \times 9 = 45$

$4 \times 3 = 12$

$2 \times 4 = 8$

$4 \times 8 = 32$

$6 \times 4 = 24$

$7 \times 5 = 35$

$5 \times 4 = 20$

$9 \times 5 = 45$

$5 \times 2 = 10$

$3 \times 4 = 12$

$4 \times 2 = 8$

$12 \times 5 = 60$

$4 \times 1 = 4$

$11 \times 5 = 55$

$5 \times 8 = 40$

$5 \times 5 = 25$

$4 \times 7 = 28$

$7 \times 4 = 28$

$6 \times 5 = 30$

$8 \times 4 = 32$

$5 \times 8 = 40$

$5 \times 7 = 35$

$5 \times 3 = 15$

$4 \times 5 = 20$

$6 \times 4 = 24$

$4 \times 4 = 16$

$1 \times 5 = 5$

$5 \times 4 = 20$

$4 \times 6 = 24$

$4 \times 9 = 36$

$2 \times 5 = 10$

$12 \times 4 = 48$

$5 \times 10 = 50$

$5 \times 6 = 30$

$9 \times 4 = 36$

$5 \times 11 = 55$

$11 \times 4 = 44$

$4 \times 11 = 44$

$10 \times 4 = 40$

$3 \times 5 = 15$

$4 \times 10 = 40$

$7 \times 4 = 28$

$10 \times 5 = 50$

$4 \times 5 = 20$

$5 \times 12 = 60$

$8 \times 4 = 32$

$4 \times 12 = 48$



کارڈ نمبر: 16

جماعت سوم

حل کریں

- $1 \times 12 = \underline{\hspace{2cm}}$      $12 \times 12 = \underline{\hspace{2cm}}$      $12 \times 8 = \underline{\hspace{2cm}}$      $7 \times 11 = \underline{\hspace{2cm}}$      $4 \times 12 = \underline{\hspace{2cm}}$
- $11 \times 12 = \underline{\hspace{2cm}}$      $8 \times 11 = \underline{\hspace{2cm}}$      $3 \times 12 = \underline{\hspace{2cm}}$      $12 \times 7 = \underline{\hspace{2cm}}$      $10 \times 8 = \underline{\hspace{2cm}}$
- $2 \times 12 = \underline{\hspace{2cm}}$      $10 \times 6 = \underline{\hspace{2cm}}$      $12 \times 6 = \underline{\hspace{2cm}}$      $10 \times 12 = \underline{\hspace{2cm}}$      $5 \times 12 = \underline{\hspace{2cm}}$
- $11 \times 2 = \underline{\hspace{2cm}}$      $5 \times 10 = \underline{\hspace{2cm}}$      $12 \times 5 = \underline{\hspace{2cm}}$      $11 \times 4 = \underline{\hspace{2cm}}$      $5 \times 11 = \underline{\hspace{2cm}}$
- $12 \times 9 = \underline{\hspace{2cm}}$      $9 \times 12 = \underline{\hspace{2cm}}$      $12 \times 10 = \underline{\hspace{2cm}}$      $11 \times 12 = \underline{\hspace{2cm}}$      $8 \times 12 = \underline{\hspace{2cm}}$
- $12 \times 4 = \underline{\hspace{2cm}}$      $12 \times 3 = \underline{\hspace{2cm}}$      $12 \times 11 = \underline{\hspace{2cm}}$      $10 \times 3 = \underline{\hspace{2cm}}$      $12 \times 8 = \underline{\hspace{2cm}}$
- $12 \times 2 = \underline{\hspace{2cm}}$      $10 \times 1 = \underline{\hspace{2cm}}$      $6 \times 12 = \underline{\hspace{2cm}}$      $11 \times 11 = \underline{\hspace{2cm}}$      $12 \times 10 = \underline{\hspace{2cm}}$
- $7 \times 12 = \underline{\hspace{2cm}}$      $11 \times 5 = \underline{\hspace{2cm}}$      $9 \times 11 = \underline{\hspace{2cm}}$      $11 \times 6 = \underline{\hspace{2cm}}$      $3 \times 11 = \underline{\hspace{2cm}}$
- $12 \times 12 = \underline{\hspace{2cm}}$      $12 \times 6 = \underline{\hspace{2cm}}$      $7 \times 10 = \underline{\hspace{2cm}}$      $8 \times 11 = \underline{\hspace{2cm}}$      $8 \times 10 = \underline{\hspace{2cm}}$
- $6 \times 10 = \underline{\hspace{2cm}}$      $11 \times 8 = \underline{\hspace{2cm}}$      $9 \times 10 = \underline{\hspace{2cm}}$      $9 \times 12 = \underline{\hspace{2cm}}$      $12 \times 11 = \underline{\hspace{2cm}}$

کارڈ نمبر: 16

جماعت سوم

## جوابات

$1 \times 12 = 12$

$12 \times 12 = 144$

$12 \times 8 = 96$

$7 \times 11 = 77$

$4 \times 12 = 48$

$11 \times 12 = 132$

$8 \times 11 = 88$

$3 \times 12 = 36$

$12 \times 7 = 84$

$10 \times 8 = 80$

$2 \times 12 = 24$

$10 \times 6 = 60$

$12 \times 6 = 72$

$10 \times 12 = 120$

$5 \times 12 = 60$

$11 \times 2 = 22$

$5 \times 10 = 50$

$12 \times 5 = 60$

$11 \times 4 = 44$

$5 \times 11 = 55$

$12 \times 9 = 108$

$9 \times 12 = 108$

$12 \times 10 = 120$

$11 \times 12 = 132$

$8 \times 12 = 96$

$12 \times 4 = 48$

$12 \times 3 = 36$

$12 \times 11 = 132$

$10 \times 3 = 30$

$12 \times 8 = 96$

$12 \times 2 = 24$

$10 \times 1 = 10$

$6 \times 12 = 72$

$11 \times 11 = 121$

$12 \times 10 = 120$

$7 \times 12 = 84$

$11 \times 5 = 55$

$9 \times 11 = 99$

$11 \times 6 = 66$

$3 \times 11 = 33$

$12 \times 12 = 144$

$12 \times 6 = 72$

$7 \times 10 = 70$

$8 \times 11 = 88$

$8 \times 10 = 80$

$6 \times 10 = 60$

$11 \times 8 = 88$

$9 \times 10 = 90$

$9 \times 12 = 108$

$12 \times 11 = 132$

کارڈ نمبر: 17

جماعت سوم

حل کریں

$2 \times 6 = \underline{\hspace{2cm}}$

$3 \times 1 = \underline{\hspace{2cm}}$

$11 \times 2 = \underline{\hspace{2cm}}$

$3 \times 2 = \underline{\hspace{2cm}}$

$2 \times 11 = \underline{\hspace{2cm}}$

$3 \times 3 = \underline{\hspace{2cm}}$

$10 \times 2 = \underline{\hspace{2cm}}$

$9 \times 3 = \underline{\hspace{2cm}}$

$2 \times 8 = \underline{\hspace{2cm}}$

$7 \times 2 = \underline{\hspace{2cm}}$

$8 \times 3 = \underline{\hspace{2cm}}$

$2 \times 5 = \underline{\hspace{2cm}}$

$2 \times 12 = \underline{\hspace{2cm}}$

$2 \times 10 = \underline{\hspace{2cm}}$

$10 \times 3 = \underline{\hspace{2cm}}$

$2 \times 7 = \underline{\hspace{2cm}}$

$1 \times 2 = \underline{\hspace{2cm}}$

$4 \times 3 = \underline{\hspace{2cm}}$

$11 \times 3 = \underline{\hspace{2cm}}$

$7 \times 3 = \underline{\hspace{2cm}}$

$8 \times 2 = \underline{\hspace{2cm}}$

$4 \times 2 = \underline{\hspace{2cm}}$

$2 \times 3 = \underline{\hspace{2cm}}$

$1 \times 3 = \underline{\hspace{2cm}}$

$2 \times 4 = \underline{\hspace{2cm}}$

$2 \times 9 = \underline{\hspace{2cm}}$

$12 \times 3 = \underline{\hspace{2cm}}$

$5 \times 3 = \underline{\hspace{2cm}}$

$6 \times 2 = \underline{\hspace{2cm}}$

$3 \times 4 = \underline{\hspace{2cm}}$

$5 \times 2 = \underline{\hspace{2cm}}$

$3 \times 2 = \underline{\hspace{2cm}}$

$2 \times 1 = \underline{\hspace{2cm}}$

$6 \times 3 = \underline{\hspace{2cm}}$

$7 \times 2 = \underline{\hspace{2cm}}$

$3 \times 7 = \underline{\hspace{2cm}}$

$12 \times 2 = \underline{\hspace{2cm}}$

$3 \times 5 = \underline{\hspace{2cm}}$

$7 \times 3 = \underline{\hspace{2cm}}$

$3 \times 6 = \underline{\hspace{2cm}}$

$3 \times 11 = \underline{\hspace{2cm}}$

$9 \times 2 = \underline{\hspace{2cm}}$

$3 \times 10 = \underline{\hspace{2cm}}$

$2 \times 2 = \underline{\hspace{2cm}}$

$3 \times 12 = \underline{\hspace{2cm}}$

$2 \times 4 = \underline{\hspace{2cm}}$

$3 \times 9 = \underline{\hspace{2cm}}$

$11 \times 2 = \underline{\hspace{2cm}}$

$5 \times 3 = \underline{\hspace{2cm}}$

$3 \times 8 = \underline{\hspace{2cm}}$

کارڈ نمبر: 17

جماعت سوم

## جوابات

$2 \times 6 = 12$

$3 \times 1 = 3$

$11 \times 2 = 22$

$3 \times 2 = 6$

$2 \times 11 = 22$

$3 \times 3 = 9$

$10 \times 2 = 20$

$9 \times 3 = 27$

$2 \times 8 = 16$

$7 \times 2 = 14$

$8 \times 3 = 24$

$2 \times 5 = 10$

$2 \times 12 = 24$

$2 \times 10 = 20$

$10 \times 3 = 30$

$2 \times 7 = 14$

$1 \times 2 = 2$

$4 \times 3 = 12$

$11 \times 3 = 33$

$7 \times 3 = 21$

$8 \times 2 = 16$

$4 \times 2 = 8$

$2 \times 3 = 6$

$1 \times 3 = 3$

$2 \times 4 = 8$

$2 \times 9 = 18$

$12 \times 3 = 36$

$5 \times 3 = 15$

$6 \times 2 = 12$

$3 \times 4 = 12$

$5 \times 2 = 10$

$3 \times 2 = 6$

$2 \times 1 = 2$

$6 \times 3 = 18$

$7 \times 2 = 14$

$3 \times 7 = 21$

$12 \times 2 = 24$

$3 \times 5 = 15$

$7 \times 3 = 21$

$3 \times 6 = 18$

$3 \times 11 = 33$

$9 \times 2 = 18$

$3 \times 10 = 30$

$2 \times 2 = 4$

$3 \times 12 = 36$

$2 \times 4 = 8$

$3 \times 9 = 27$

$11 \times 2 = 22$

$5 \times 3 = 15$

$3 \times 8 = 24$

کارڈ نمبر: 18

جماعت سوم

حل کریں

- |                       |                       |                       |                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| $4 \times 9 =$ _____  | $9 \times 12 =$ _____ | $12 \times 8 =$ _____ | $9 \times 4 =$ _____  | $8 \times 6 =$ _____  |
| $9 \times 1 =$ _____  | $9 \times 8 =$ _____  | $8 \times 12 =$ _____ | $9 \times 9 =$ _____  | $11 \times 8 =$ _____ |
| $5 \times 9 =$ _____  | $8 \times 5 =$ _____  | $9 \times 3 =$ _____  | $9 \times 7 =$ _____  | $8 \times 4 =$ _____  |
| $9 \times 11 =$ _____ | $1 \times 8 =$ _____  | $9 \times 5 =$ _____  | $2 \times 8 =$ _____  | $8 \times 7 =$ _____  |
| $9 \times 2 =$ _____  | $9 \times 10 =$ _____ | $8 \times 11 =$ _____ | $8 \times 3 =$ _____  | $10 \times 8 =$ _____ |
| $6 \times 9 =$ _____  | $9 \times 6 =$ _____  | $3 \times 8 =$ _____  | $8 \times 8 =$ _____  | $2 \times 9 =$ _____  |
| $7 \times 9 =$ _____  | $4 \times 8 =$ _____  | $1 \times 9 =$ _____  | $3 \times 9 =$ _____  | $5 \times 8 =$ _____  |
| $8 \times 1 =$ _____  | $8 \times 9 =$ _____  | $8 \times 2 =$ _____  | $8 \times 10 =$ _____ | $12 \times 9 =$ _____ |
| $8 \times 8 =$ _____  | $11 \times 9 =$ _____ | $6 \times 8 =$ _____  | $9 \times 8 =$ _____  | $9 \times 9 =$ _____  |
| $10 \times 9 =$ _____ | $7 \times 8 =$ _____  | $9 \times 9 =$ _____  | $8 \times 9 =$ _____  | $7 \times 8 =$ _____  |

کارڈ نمبر: 18

جماعت سوم

## جوابات

$4 \times 9 = 36$

$9 \times 12 = 108$

$12 \times 8 = 96$

$9 \times 4 = 36$

$8 \times 6 = 48$

$9 \times 1 = 9$

$9 \times 8 = 72$

$8 \times 12 = 96$

$9 \times 9 = 81$

$11 \times 8 = 88$

$5 \times 9 = 45$

$8 \times 5 = 40$

$9 \times 3 = 27$

$9 \times 7 = 63$

$8 \times 4 = 32$

$9 \times 11 = 99$

$1 \times 8 = 8$

$9 \times 5 = 45$

$2 \times 8 = 16$

$8 \times 7 = 56$

$9 \times 2 = 18$

$9 \times 10 = 90$

$8 \times 11 = 88$

$8 \times 3 = 24$

$10 \times 8 = 80$

$6 \times 9 = 54$

$9 \times 6 = 54$

$3 \times 8 = 24$

$8 \times 8 = 64$

$2 \times 9 = 18$

$7 \times 9 = 63$

$4 \times 8 = 32$

$1 \times 9 = 9$

$3 \times 9 = 27$

$5 \times 8 = 40$

$8 \times 1 = 8$

$8 \times 9 = 72$

$8 \times 2 = 16$

$8 \times 10 = 80$

$12 \times 9 = 108$

$8 \times 8 = 64$

$11 \times 9 = 99$

$6 \times 8 = 48$

$9 \times 8 = 72$

$9 \times 9 = 81$

$10 \times 9 = 90$

$7 \times 8 = 56$

$9 \times 9 = 81$

$8 \times 9 = 72$

$7 \times 8 = 56$

کار و نمبر: 19

1. 
$$\begin{array}{r} 2 \\ \times 6 \\ \hline \end{array}$$

2. 
$$\begin{array}{r} 2 \\ \times 1 \\ \hline \end{array}$$

3. 
$$\begin{array}{r} 2 \\ \times 3 \\ \hline \end{array}$$

4. 
$$\begin{array}{r} 2 \\ \times 5 \\ \hline \end{array}$$

5. 
$$\begin{array}{r} 2 \\ \times 9 \\ \hline \end{array}$$

6. 
$$\begin{array}{r} 2 \\ \times 4 \\ \hline \end{array}$$

7.  $6 \times 2 = \underline{\quad}$

8.  $4 \times 2 = \underline{\quad}$

9.  $9 \times 2 = \underline{\quad}$

10.  $8 \times 2 = \underline{\quad}$

11.  $7 \times 2 = \underline{\quad}$

12.  $1 \times 2 = \underline{\quad}$

13.  $3 \times 2 = \underline{\quad}$

14.  $5 \times 2 = \underline{\quad}$

15.  $2 \times 2 = \underline{\quad}$

16. 
$$\begin{array}{r} 2 \\ \times 7 \\ \hline \end{array}$$

17. 
$$\begin{array}{r} 2 \\ \times 4 \\ \hline \end{array}$$

18. 
$$\begin{array}{r} 2 \\ \times 6 \\ \hline \end{array}$$

19. 
$$\begin{array}{r} 2 \\ \times 2 \\ \hline \end{array}$$

20. 
$$\begin{array}{r} 2 \\ \times 8 \\ \hline \end{array}$$

21. 
$$\begin{array}{r} 2 \\ \times 9 \\ \hline \end{array}$$

22.  $9 \times 2 = \underline{\quad}$

23.  $3 \times 4 = \underline{\quad}$

24.  $5 \times 4 = \underline{\quad}$

25.  $8 \times 4 = \underline{\quad}$

26.  $7 \times 5 = \underline{\quad}$

27.  $3 \times 9 = \underline{\quad}$

28.  $7 \times 7 = \underline{\quad}$

29.  $5 \times 6 = \underline{\quad}$

30.  $7 \times 8 = \underline{\quad}$

31. 
$$\begin{array}{r} 8 \\ \times 5 \\ \hline \end{array}$$

32. 
$$\begin{array}{r} 9 \\ \times 4 \\ \hline \end{array}$$

33. 
$$\begin{array}{r} 8 \\ \times 6 \\ \hline \end{array}$$

34. 
$$\begin{array}{r} 5 \\ \times 9 \\ \hline \end{array}$$

کارڈ نمبر: 19

جماعت سوم

### جوابات

$$\begin{array}{r} 1. \quad 2 \\ \times 6 \\ \hline 12 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 2. \quad 2 \\ \times 1 \\ \hline 2 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 3. \quad 2 \\ \times 3 \\ \hline 6 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 4. \quad 2 \\ \times 5 \\ \hline 10 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 5. \quad 2 \\ \times 9 \\ \hline 18 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 6. \quad 2 \\ \times 4 \\ \hline 8 \end{array}$$

$$7. \quad 6 \times 2 = \underline{12}$$

$$8. \quad 4 \times 2 = \underline{8}$$

$$9. \quad 9 \times 2 = \underline{18}$$

$$10. \quad 8 \times 2 = \underline{16}$$

$$11. \quad 7 \times 2 = \underline{14}$$

$$12. \quad 1 \times 2 = \underline{2}$$

$$13. \quad 3 \times 2 = \underline{6}$$

$$14. \quad 5 \times 2 = \underline{10}$$

$$15. \quad 2 \times 2 = \underline{4}$$

$$\begin{array}{r} 16. \quad 2 \\ \times 7 \\ \hline 14 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 17. \quad 2 \\ \times 4 \\ \hline 8 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 18. \quad 2 \\ \times 6 \\ \hline 12 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 19. \quad 2 \\ \times 2 \\ \hline 4 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 20. \quad 2 \\ \times 8 \\ \hline 16 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 21. \quad 2 \\ \times 9 \\ \hline 18 \end{array}$$

$$(22) \quad 9 \times 2 = \underline{18}$$

$$(23) \quad 3 \times 4 = \underline{12}$$

$$(24) \quad 5 \times 4 = \underline{20}$$

$$(25) \quad 8 \times 4 = \underline{32}$$

$$(26) \quad 7 \times 5 = \underline{35}$$

$$(27) \quad 3 \times 9 = \underline{27}$$

$$(28) \quad 7 \times 7 = \underline{49}$$

$$(29) \quad 5 \times 6 = \underline{30}$$

$$(30) \quad 7 \times 8 = \underline{56}$$

$$(31) \quad \begin{array}{r} 8 \\ \times 5 \\ \hline 40 \end{array}$$

$$(32) \quad \begin{array}{r} 9 \\ \times 4 \\ \hline 36 \end{array}$$

$$(33) \quad \begin{array}{r} 8 \\ \times 6 \\ \hline 48 \end{array}$$

$$(34) \quad \begin{array}{r} 5 \\ \times 9 \\ \hline 45 \end{array}$$



$2\sqrt{10}$	$1\sqrt{7}$	$4\sqrt{28}$	$1\sqrt{6}$	$3\sqrt{24}$	$4\sqrt{32}$	$5\sqrt{30}$
$5\sqrt{25}$	$2\sqrt{8}$	$3\sqrt{18}$	$4\sqrt{12}$	$2\sqrt{6}$	$5\sqrt{20}$	$3\sqrt{15}$
$4\sqrt{32}$	$3\sqrt{21}$	$2\sqrt{14}$	$5\sqrt{30}$	$5\sqrt{0}$	$1\sqrt{4}$	$4\sqrt{8}$
$2\sqrt{12}$	$4\sqrt{36}$	$5\sqrt{35}$	$4\sqrt{16}$	$4\sqrt{4}$	$2\sqrt{18}$	$1\sqrt{5}$
$5\sqrt{45}$	$5\sqrt{40}$	$3\sqrt{12}$	$3\sqrt{0}$	$1\sqrt{3}$	$3\sqrt{27}$	$2\sqrt{16}$
$4\sqrt{24}$	$4\sqrt{0}$	$2\sqrt{8}$	$5\sqrt{10}$	$4\sqrt{36}$	$4\sqrt{24}$	$5\sqrt{15}$
$1\sqrt{2}$	$5\sqrt{15}$	$2\sqrt{2}$	$4\sqrt{20}$	$1\sqrt{1}$	$5\sqrt{35}$	$1\sqrt{0}$
$1\sqrt{8}$	$2\sqrt{6}$	$3\sqrt{27}$	$4\sqrt{20}$	$4\sqrt{12}$	$5\sqrt{20}$	$3\sqrt{21}$
$3\sqrt{18}$	$4\sqrt{28}$	$5\sqrt{40}$	$3\sqrt{9}$	$2\sqrt{18}$	$5\sqrt{5}$	$4\sqrt{16}$
$2\sqrt{14}$	$1\sqrt{9}$	$2\sqrt{4}$	$3\sqrt{6}$	$2\sqrt{0}$	$3\sqrt{3}$	$5\sqrt{10}$

کارڈ نمبر: 30

جوابات

جماعت سوم

$$2 \overline{) 10}^5$$

$$1 \overline{) 7}^7$$

$$4 \overline{) 28}^7$$

$$1 \overline{) 6}^6$$

$$3 \overline{) 24}^8$$

$$4 \overline{) 32}^8$$

$$5 \overline{) 30}^6$$

$$5 \overline{) 25}^5$$

$$2 \overline{) 8}^4$$

$$3 \overline{) 18}^6$$

$$4 \overline{) 12}^3$$

$$2 \overline{) 6}^3$$

$$5 \overline{) 20}^4$$

$$3 \overline{) 15}^5$$

$$4 \overline{) 32}^8$$

$$3 \overline{) 21}^7$$

$$2 \overline{) 14}^7$$

$$5 \overline{) 30}^6$$

$$5 \overline{) 0}^0$$

$$1 \overline{) 4}^4$$

$$4 \overline{) 8}^2$$

$$2 \overline{) 12}^6$$

$$4 \overline{) 36}^9$$

$$5 \overline{) 35}^7$$

$$4 \overline{) 16}^4$$

$$4 \overline{) 4}^1$$

$$2 \overline{) 18}^9$$

$$1 \overline{) 5}^5$$

$$5 \overline{) 45}^9$$

$$5 \overline{) 40}^8$$

$$3 \overline{) 12}^4$$

$$3 \overline{) 0}^0$$

$$1 \overline{) 3}^3$$

$$3 \overline{) 27}^9$$

$$2 \overline{) 16}^8$$

$$4 \overline{) 24}^6$$

$$4 \overline{) 0}^0$$

$$2 \overline{) 8}^4$$

$$5 \overline{) 10}^2$$

$$4 \overline{) 36}^9$$

$$4 \overline{) 24}^6$$

$$5 \overline{) 15}^3$$

$$1 \overline{) 2}^2$$

$$5 \overline{) 15}^3$$

$$2 \overline{) 2}^1$$

$$4 \overline{) 20}^5$$

$$1 \overline{) 1}^1$$

$$5 \overline{) 35}^7$$

$$1 \overline{) 0}^0$$

$$1 \overline{) 8}^8$$

$$2 \overline{) 6}^3$$

$$3 \overline{) 27}^9$$

$$4 \overline{) 20}^5$$

$$4 \overline{) 12}^3$$

$$5 \overline{) 20}^4$$

$$3 \overline{) 21}^7$$

$$3 \overline{) 18}^6$$

$$4 \overline{) 28}^7$$

$$5 \overline{) 40}^8$$

$$3 \overline{) 9}^3$$

$$2 \overline{) 18}^9$$

$$5 \overline{) 5}^1$$

$$4 \overline{) 16}^4$$

$$2 \overline{) 14}^7$$

$$1 \overline{) 9}^9$$

$$2 \overline{) 4}^2$$

$$3 \overline{) 6}^2$$

$$2 \overline{) 0}^0$$

$$3 \overline{) 3}^1$$

$$5 \overline{) 10}^2$$

جماعت سوم

کارڈ نمبر: 31

$7\overline{)21}$	$5\overline{)25}$	$7\overline{)49}$	$9\overline{)0}$	$9\overline{)81}$	$5\overline{)35}$	$8\overline{)24}$
$6\overline{)6}$	$6\overline{)18}$	$8\overline{)40}$	$8\overline{)16}$	$7\overline{)28}$	$6\overline{)48}$	$6\overline{)36}$
$9\overline{)18}$	$8\overline{)64}$	$9\overline{)9}$	$6\overline{)54}$	$9\overline{)54}$	$7\overline{)35}$	$8\overline{)8}$
$6\overline{)48}$	$9\overline{)45}$	$6\overline{)30}$	$8\overline{)72}$	$6\overline{)12}$	$8\overline{)32}$	$7\overline{)14}$
$9\overline{)72}$	$5\overline{)20}$	$7\overline{)63}$	$5\overline{)30}$	$7\overline{)7}$	$9\overline{)63}$	$9\overline{)27}$
$7\overline{)35}$	$8\overline{)24}$	$9\overline{)36}$	$6\overline{)24}$	$8\overline{)56}$	$6\overline{)18}$	$7\overline{)42}$
$8\overline{)48}$	$6\overline{)36}$	$7\overline{)0}$	$7\overline{)56}$	$5\overline{)45}$	$6\overline{)42}$	$6\overline{)0}$
$6\overline{)54}$	$9\overline{)45}$	$5\overline{)15}$	$8\overline{)8}$	$8\overline{)64}$	$8\overline{)16}$	$9\overline{)63}$
$6\overline{)18}$	$7\overline{)14}$	$8\overline{)48}$	$7\overline{)56}$	$6\overline{)24}$	$7\overline{)42}$	$9\overline{)36}$
$5\overline{)40}$	$8\overline{)0}$	$5\overline{)10}$	$8\overline{)32}$	$8\overline{)72}$	$9\overline{)81}$	$7\overline{)49}$

کارڈ نمبر: 31

جماعت سوم

جوابات

$$\frac{3}{7 \overline{)21}}$$

$$\frac{5}{5 \overline{)25}}$$

$$\frac{7}{7 \overline{)49}}$$

$$\frac{0}{9 \overline{)0}}$$

$$\frac{9}{9 \overline{)81}}$$

$$\frac{7}{5 \overline{)35}}$$

$$\frac{3}{8 \overline{)24}}$$

$$\frac{1}{6 \overline{)6}}$$

$$\frac{3}{6 \overline{)18}}$$

$$\frac{5}{8 \overline{)40}}$$

$$\frac{2}{8 \overline{)16}}$$

$$\frac{4}{7 \overline{)28}}$$

$$\frac{8}{6 \overline{)48}}$$

$$\frac{6}{6 \overline{)36}}$$

$$\frac{2}{9 \overline{)18}}$$

$$\frac{8}{8 \overline{)64}}$$

$$\frac{1}{9 \overline{)9}}$$

$$\frac{9}{6 \overline{)54}}$$

$$\frac{6}{9 \overline{)54}}$$

$$\frac{5}{7 \overline{)35}}$$

$$\frac{1}{8 \overline{)8}}$$

$$\frac{8}{6 \overline{)48}}$$

$$\frac{5}{9 \overline{)45}}$$

$$\frac{9}{6 \overline{)30}}$$

$$\frac{9}{8 \overline{)72}}$$

$$\frac{2}{6 \overline{)12}}$$

$$\frac{4}{8 \overline{)32}}$$

$$\frac{2}{7 \overline{)14}}$$

$$\frac{8}{9 \overline{)72}}$$

$$\frac{4}{5 \overline{)20}}$$

$$\frac{9}{7 \overline{)63}}$$

$$\frac{6}{5 \overline{)30}}$$

$$\frac{1}{7 \overline{)7}}$$

$$\frac{7}{9 \overline{)63}}$$

$$\frac{3}{9 \overline{)27}}$$

$$\frac{5}{7 \overline{)35}}$$

$$\frac{2}{8 \overline{)24}}$$

$$\frac{4}{9 \overline{)36}}$$

$$\frac{4}{6 \overline{)24}}$$

$$\frac{7}{8 \overline{)56}}$$

$$\frac{3}{6 \overline{)18}}$$

$$\frac{6}{7 \overline{)42}}$$

$$\frac{6}{8 \overline{)48}}$$

$$\frac{6}{6 \overline{)36}}$$

$$\frac{0}{7 \overline{)0}}$$

$$\frac{8}{7 \overline{)56}}$$

$$\frac{9}{5 \overline{)45}}$$

$$\frac{7}{6 \overline{)42}}$$

$$\frac{0}{6 \overline{)0}}$$

$$\frac{9}{6 \overline{)54}}$$

$$\frac{5}{9 \overline{)45}}$$

$$\frac{3}{5 \overline{)15}}$$

$$\frac{1}{8 \overline{)8}}$$

$$\frac{8}{8 \overline{)64}}$$

$$\frac{2}{8 \overline{)16}}$$

$$\frac{7}{9 \overline{)63}}$$

$$\frac{3}{6 \overline{)18}}$$

$$\frac{2}{7 \overline{)14}}$$

$$\frac{6}{8 \overline{)48}}$$

$$\frac{8}{7 \overline{)56}}$$

$$\frac{4}{6 \overline{)24}}$$

$$\frac{6}{7 \overline{)42}}$$

$$\frac{4}{9 \overline{)36}}$$

$$\frac{8}{5 \overline{)40}}$$

$$\frac{0}{8 \overline{)0}}$$


$$\frac{2}{5 \overline{)10}}$$

$$\frac{4}{8 \overline{)32}}$$

$$\frac{9}{8 \overline{)72}}$$

$$\frac{9}{9 \overline{)81}}$$

$$\frac{7}{7 \overline{)49}}$$



اوپر تصویروں کو دیکھیں اور ہر نام کے سامنے تعداد میں لکھیں۔


دہ کتنے دائرے ہیں؟ (2) کتنے سکون ہیں؟ (3) کتنے مربع ہیں؟

(4) وہ مستطیلیں لکھیں جہاں مربع نہ ہوں؟

5 کونسی اشکال سب سے زیادہ ہیں؟

6 کونسی اشکال سب سے کم ہیں؟

جوابات



اوپر تصویروں کو دیکھیں اور ہر نام کے سامنے تعداد میں لکھیں۔

- ① کتنے دائرے ہیں؟ 13
- ② کتنے متکون ہیں؟ 13
- ③ کتنے مربع ہیں؟ 10
- ④ وہ مستطیلیں لکھیں جہاں مربع نہ ہوں؟ 2
- ⑤ کونسی اشکال سب سے زیادہ ہیں؟ دائرہ و متکون
- ⑥ کونسی اشکال سب سے کم ہیں؟ مستطیل

اوپر والی قطار کے ہندسوں میں بائیں طرف کے ہندسے جمع کر کے جواب ترتیب سے لکھیں۔

1 + 5

+	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6				
2	3	4							
3							10		
4				8					
5									14
6							13		
7					12				
8									
9									

چارٹ استعمال کر کے جواب تلاش کریں۔

2.  $17 - 9 = \underline{\quad}$        $11 - 6 = \underline{\quad}$        $9 - 3 = \underline{\quad}$

3.  $16 - 8 = \underline{\quad}$        $10 - 5 = \underline{\quad}$        $4 - 2 = \underline{\quad}$

اپنی روایتی نظار کے ہندسوں میں بائیں طرف کے ہندسے جمع کر کے جواب ترتیب سے لکھیں۔

$$1 + 5$$

+	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

چارٹ استعمال کر کے جواب تلاش کریں۔

2.  $17 - 9 = 8$        $11 - 6 = 5$        $9 - 3 = 6$   
 3.  $16 - 8 = 8$        $10 - 5 = 5$        $4 - 2 = 2$   
 4.  $14 - 7 = 7$        $8 - 4 = 4$        $12 - 3 = 9$



نیچے دی گئی مثال کی روشنی میں افقی اور عمودی تفریق کر کے دیکھیں کہ آیا آپ کا دونوں طرف سے مشترک جواب صحیح ہے۔



①

	10	2	8
	3	1	2
	7	1	6

②

	9	3	
	4	0	

③

	8	4	
	3	2	

④

	7	3	
	2	2	

⑤

	8	4	
	3	0	

⑥

	9	5	
	2	1	

⑦

	10	3	
	5	1	

⑧

	9	3	
	6	0	

⑨

	8	5	
	3	0	

⑩


	7	4	
	5	2	

⑪

	10	6	
	4	4	

جوابات

نیچے دی گئی مثال کی روشنی میں اُتقی اور عمودی تفریق کر کے دیکھیں کہ آیا آپ کا دونوں طرف سے  
مشترکہ جواب صحیح ہے۔



①

	→	→
10	2	8
3	1	2
7	1	6

②

	→	→
9	3	6
4	0	4
5	3	2

③

	→	→
8	4	4
3	2	1
5	2	3

④

	→	→
7	3	4
2	2	0
5	1	4

⑤

	→	→
8	4	4
3	0	3
5	4	1

⑥

	→	→
9	5	4
2	1	1
7	4	3

⑦

	→	→
10	3	7
5	1	4
5	2	3

⑧

	→	→
9	3	6
6	0	6
3	3	0

⑨

	→	→
8	5	3
3	0	3
5	5	0

⑩

	→	→
7	4	3
5	2	3
2	2	0

⑪

	→	→
10	6	4
4	4	0
6	2	4

تیر کے نشان کی مناسبت سے جمع و تفریق کے عمل کر کے دائرے مکمل کریں۔

①

$\Rightarrow = 20+$   
 $\Downarrow = 5-$

55  $\Rightarrow$  75  
 $\Downarrow$   
 $\Downarrow$   
 $\Rightarrow$   $\Rightarrow$   
 $\Downarrow$   
 100



②

$\Rightarrow = 3-$   
 $\Downarrow = 17+$   
 $\Leftarrow = 9-$

116  $\Rightarrow$   $\Downarrow$   
 $\Leftarrow$   
 $\Downarrow$   
 $\Rightarrow$   $\Rightarrow$  132

③

$\Rightarrow = 25+$   
 $\Downarrow = 13-$   
 $\Leftarrow = 6-$

51  $\Rightarrow$   $\Downarrow$   
 $\Downarrow$   
 $\Leftarrow$   
 $\Downarrow$   
 $\Rightarrow$   $\Rightarrow$  81




④

$\Rightarrow = 12+$   
 $\Downarrow = 4-$   
 $\Leftarrow = 24+$   
 $\Uparrow = 8-$

4  $\Rightarrow$   $\Rightarrow$   $\Downarrow$   
 $\Downarrow$   
 $\Leftarrow$   
 $\Downarrow$   
 $\Uparrow$   
 $\Downarrow$   
 52  $\Leftarrow$


تیر کے نشان کی مناسبت سے جمع و تفریق کے عمل کر کے دائرے مکمل کریں۔

①




شروع


②



③



④






اس معنی کیلئے آپ دیئے گئے سوالات کو حل کر کے چنان  
جہاں جوابات ایک جیسے ہوں اوپر والے بچوں کو اس راستے پر جا کر  
تاکہ پارک کو پہنچ سکیں۔

①	34 49 +	②	27 56 +	③	15 68 +	④	47 36 +
⑤	28 41 13 +	⑥	38 23 +	⑦	39 11 43 +	⑧	59 24 +
⑨	48 44 +	⑩	37 46 +	⑪	64 19 +	⑫	48 35 +
⑬	39 56 +	⑭	17 42 24 +	⑮	59 12 +	⑯	44 14 23 +
⑰	66 28 +	⑱	79 4 +	⑲	66 17 +	⑳	28 55





اس معنی کیلئے آپ دیتے گئے سوالات کو حل کر کے جہاں  
جہاں جوابات ایک جیسے ہوں اوپر والے بچوں کو اس راستے پر جا کر  
تاکہ پارک کو پہنچ سکیں۔


①	$\begin{array}{r} 34 \\ 49 + \\ \hline 83 \end{array}$	②	$\begin{array}{r} 27 \\ 56 + \\ \hline 83 \end{array}$	③	$\begin{array}{r} 15 \\ 68 + \\ \hline 83 \end{array}$	④	$\begin{array}{r} 47 \\ 36 + \\ \hline 83 \end{array}$
⑤	$\begin{array}{r} 28 \\ 41 \\ 13 + \\ \hline 82 \end{array}$	⑥	$\begin{array}{r} 38 \\ 23 + \\ \hline 61 \end{array}$	⑦	$\begin{array}{r} 39 \\ 11 \\ 43 + \\ \hline 93 \end{array}$	⑧	$\begin{array}{r} 59 \\ 24 + \\ \hline 83 \end{array}$
⑨	$\begin{array}{r} 48 \\ 44 + \\ \hline 92 \end{array}$	⑩	$\begin{array}{r} 37 \\ 46 + \\ \hline 83 \end{array}$	⑪	$\begin{array}{r} 64 \\ 19 + \\ \hline 83 \end{array}$	⑫	$\begin{array}{r} 48 \\ 35 + \\ \hline 83 \end{array}$
⑬	$\begin{array}{r} 39 \\ 56 + \\ \hline 95 \end{array}$	⑭	$\begin{array}{r} 17 \\ 42 \\ 24 + \\ \hline 83 \end{array}$	⑮	$\begin{array}{r} 59 \\ 12 + \\ \hline 71 \end{array}$	⑯	$\begin{array}{r} 44 \\ 14 \\ 23 + \\ \hline 81 \end{array}$
⑰	$\begin{array}{r} 66 \\ 28 + \\ \hline 94 \end{array}$	⑱	$\begin{array}{r} 79 \\ 4 + \\ \hline 83 \end{array}$	⑲	$\begin{array}{r} 66 \\ 17 + \\ \hline 19 \end{array}$	⑳	$\begin{array}{r} 28 \\ 55 \\ \hline 83 \end{array}$

راستہ ان اعداد پر ہیں۔

شروع: 1, 2, 3, 4, 8, 11, 12, 14, 18, 19, 20  
ختم



مختلف راستے دیئے گئے ہیں۔ ان کی اکائیاں گن کر نیچے لکھیں۔




① \_\_\_\_\_

② \_\_\_\_\_

③ \_\_\_\_\_

④ \_\_\_\_\_



⑤ \_\_\_\_\_

⑥ \_\_\_\_\_

⑦ \_\_\_\_\_


⑧ \_\_\_\_\_

کارڈ نمبر: 37

جماعت سوم

جوابات

مختلف راستے دیئے گئے ہیں۔ ان کی اکائیاں گن کر نیچے لکھیے۔




① 12

2 15

③ 17

④ 13



⑤ 16

⑥ 24

⑦ 23

⑧ 23



ہر راستے کو جمع اور منفی ما عمل کر کے مکمل کریں۔

The maze contains the following mathematical problems at its junctions:

- Top left:  $5 + 3 = \square$  and  $\square + 2 = 10$
- Vertical path (left side):  $\square - 6$ ,  $\square + 8$ ,  $\square - 4$ ,  $\square - 3$
- Top right:  $\square - 5$ ,  $5 + 4 = 9$
- Middle right:  $\square - 6$ ,  $\square + 2$
- Center:  $8 - \square = 3$ ,  $\square - 4$
- Bottom center:  $3 + \square = \square$ ,  $\square - 1$
- Bottom center (right side):  $\square + 7 = \square$ ,  $\square + 1 = \square$ ,  $\square - 7 = \square$
- Bottom left:  $2 + \square = 5$ ,  $\square + 5$ ,  $\square - 4$
- Bottom left (right side):  $\square + 2 = \square$ ,  $\square + 5 = \square$ ,  $\square - 4 = \square$
- Bottom left (right side):  $\square + 5$ ,  $\square - 2$ ,  $\square - 4$ ,  $\square + 7$ ,  $\square / 9$
- Bottom center (right side):  $\square - 6$ ,  $\square - 1$ ,  $\square + 6$
- Bottom right:  $\square + 3$ ,  $\square + 3$ ,  $\square - 5$
- Bottom right (right side):  $4 + \square = \square$ ,  $\square + 2$ ,  $\square - 5$
- Bottom right (right side):  $7 - \square = \square$ ,  $\square - 2$ ,  $\square + 6$ ,  $\square / 9$
- Bottom right (right side):  $10 - \square = \square$ ,  $\square - 7$
- Bottom right (right side):  $2 + \square = 5$

ہر راستے کو جمع اور منفی کا عمل کر کے مکمل کریں۔

5 + 3 = 8 + 2 = 10

-6

2

+8

10

-4

6

-3

5 + 4 = 9

-5

-6

3

+2

8 - 5 = 3

-4

3 + 4 = 7

-1

2 + 7 = 9 + 1 = 10 - 7 = 3

+5

7

-4

3 + 2 = 5 + 5 = 10 - 4 = 6

+3

6

+3

9

-5

4 + 4 = 8

+2

7 - 6 = 1

-2

3

+6

9

10 - 9 = 1

-7

5

2 + 3 = 5

+7

9

-2

6

-4

8

-6

4

-1

3

+6

ہر خانے میں مناسب عدد لکھیں۔

$$\begin{array}{r} 43 \\ + \square 8 \\ \hline 61 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 3 \square \\ + 19 \\ \hline 55 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 22 \\ + \square 9 \\ \hline 41 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 3 \square \\ + \square 9 \\ \hline 95 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \square 9 \\ + 1 \square \\ \hline 95 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 5 \square \\ + \square 6 \\ \hline 90 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \square \square \\ + 73 \\ \hline 91 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 64 \\ + \square \square \\ \hline 82 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 3 \square \\ + \square 7 \\ \hline 65 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 57 \\ + 2 \square \\ \hline 86 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \square 6 \\ + 4 \square \\ \hline 94 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 2 \square \\ + \square 8 \\ \hline 65 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \square \square \\ + 27 \\ \hline 72 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 4 \square \\ + \square 8 \\ \hline 91 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \square 5 \\ + 5 \square \\ \hline 84 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 16 \\ + \square \square \\ \hline 53 \end{array}$$

دیئے گئے اعداد کا  میں صحیح استعمال کر کے مکمل کریں

$$\begin{array}{r} 8 \square \\ + \square 2 \\ \hline 33 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \square \square \\ + \square \square \\ \hline 33 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 5 \square \\ + \square 2 \\ \hline 63 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \square \square \\ + \square \square \\ \hline 61 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 5 \square \\ + \square 2 \\ \hline 94 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \square \square \\ + \square \square \\ \hline 74 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 7 \square \\ + \square 4 \\ \hline 81 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \square \square \\ + \square \square \\ \hline 92 \end{array}$$

کارڈ نمبر: 39

جماعت سوم

جوابات

ہر خانے میں مناسب عدد لکھیں۔

$$\begin{array}{r} 1. \quad 4 \ 3 \\ + \boxed{2} \ 8 \\ \hline 6 \ 1 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 2. \quad 3 \ \boxed{6} \\ + 1 \ 9 \\ \hline 5 \ 5 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 3. \quad 2 \ 2 \\ + \boxed{1} \ 9 \\ \hline 4 \ 1 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 4. \quad 3 \ \boxed{6} \\ + \boxed{5} \ 9 \\ \hline 9 \ 5 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 5. \quad \boxed{7} \ 9 \\ + 1 \ \boxed{6} \\ \hline 9 \ 5 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 6. \quad 5 \ \boxed{4} \\ + \boxed{3} \ 6 \\ \hline 9 \ 0 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 7. \quad \boxed{1} \ \boxed{8} \\ + 7 \ 3 \\ \hline 9 \ 1 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 8. \quad 6 \ 4 \\ + \boxed{1} \ \boxed{8} \\ \hline 8 \ 2 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 9. \quad 3 \ \boxed{8} \\ + \boxed{2} \ 7 \\ \hline 6 \ 5 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 10. \quad 5 \ 7 \\ + 2 \ \boxed{9} \\ \hline 8 \ 6 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 11. \quad \boxed{4} \ 6 \\ + 4 \ \boxed{8} \\ \hline 9 \ 4 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 12. \quad 2 \ \boxed{7} \\ + \boxed{3} \ 8 \\ \hline 6 \ 5 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 13. \quad \boxed{4} \ \boxed{5} \\ + 2 \ 7 \\ \hline 7 \ 2 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 14. \quad 4 \ \boxed{3} \\ + \boxed{4} \ 8 \\ \hline 9 \ 1 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 15. \quad \boxed{2} \ 5 \\ + 5 \ \boxed{9} \\ \hline 8 \ 4 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 16. \quad 1 \ 6 \\ + \boxed{3} \ \boxed{7} \\ \hline 5 \ 3 \end{array}$$

دیئے گئے اعداد کا  میں صحیح استعمال کر کے مکمل کریں

$$17. \quad \begin{array}{r} \boxed{8} \ \boxed{2} \\ \boxed{5} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \boxed{2} \ \boxed{8} \\ + \quad \boxed{5} \\ \hline 3 \ 3 \end{array}$$

$$18. \quad \begin{array}{r} \boxed{5} \ \boxed{2} \\ \boxed{6} \ \boxed{3} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \boxed{2} \ \boxed{5} \\ + \boxed{3} \ \boxed{6} \\ \hline 6 \ 1 \end{array}$$

$$19. \quad \begin{array}{r} \boxed{5} \ \boxed{2} \\ \boxed{9} \ \boxed{4} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \boxed{2} \ \boxed{5} \\ + \boxed{4} \ \boxed{9} \\ \hline 7 \ 4 \end{array}$$

$$20. \quad \begin{array}{r} \boxed{7} \ \boxed{4} \\ \boxed{8} \ \boxed{1} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \boxed{7} \ \boxed{4} \\ + \boxed{1} \ \boxed{8} \\ \hline 9 \ 2 \end{array}$$












کارڈ نمبر: 40

حل کریں

جماعت سوم

ہر قطار میں چار گھڑیاں دی گئی ہیں دو گھڑیاں یکساں وقت بتاتی ہیں۔ کون کونسی گھڑیاں یکساں

وقت ظاہر کرتی ہیں۔؟







کارڈ نمبر: 40




جوابات

جماعت سوم




ہر قطار میں چار گھڑیاں دی گئی ہیں دو گھڑیاں یکساں وقت بتاتی ہیں۔ کون کون سی گھڑیاں یکساں وقت ظاہر کرتی ہیں۔ ؟



ب ، د یکساں وقت ظاہر کرتی ہیں۔



ج ، د یکساں وقت ظاہر کرتی ہیں۔



ا ، د یکساں وقت ظاہر کرتی ہیں۔

ہر خانے میں مناسب عدد لکھ کر مکمل کریں۔

$$\begin{array}{r} 1. \quad \square \square \square \\ + 3 \ 4 \ 6 \\ \hline 5 \ 0 \ 5 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 2. \quad \square \square \square \\ + 1 \ 3 \ 9 \\ \hline 6 \ 0 \ 8 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 3. \quad \square \square \square \\ + 2 \ 9 \ 4 \\ \hline 6 \ 5 \ 0 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 4. \quad 2 \ 7 \ \square \\ + \square \ 4 \ 3 \\ \hline 4 \ 1 \ 8 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 5. \quad 6 \ \square \ \square \\ + 1 \ 2 \ 3 \\ \hline 8 \ 1 \ 8 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 6. \quad 2 \ \square \ \square \\ + \square \ 0 \ 7 \\ \hline 6 \ 2 \ 5 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 7. \quad \square \ 7 \ 6 \\ + 1 \ \square \ \square \\ \hline 3 \ 1 \ 8 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 8. \quad \square \ \square \ 8 \\ + 1 \ 8 \ 1 \\ \hline 5 \ 2 \ 9 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 9. \quad \square \ \square \ \square \\ + 3 \ 8 \ 3 \\ \hline 8 \ 1 \ 0 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 10. \quad \square \ 3 \ \square \\ + 1 \ 9 \ 3 \\ \hline 6 \ 2 \ 7 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 11. \quad \square \ 2 \ \square \\ + 4 \ \square \ 2 \\ \hline 9 \ 0 \ 9 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 12. \quad 6 \ \square \ 6 \\ + \square \ 3 \ \square \\ \hline 7 \ 4 \ 1 \end{array}$$

کارڈ نمبر: 41

جماعت سوم

جوابات

ہر خانے میں مناسب عدد لکھ کر مکمل کریں۔

$$\begin{array}{r} 1. \quad \boxed{1} \boxed{5} \boxed{9} \\ + 3 \ 4 \ 6 \\ \hline 5 \ 0 \ 5 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 2. \quad \boxed{4} \boxed{6} \boxed{9} \\ + 1 \ 3 \ 9 \\ \hline 6 \ 0 \ 8 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 3. \quad \boxed{3} \boxed{5} \boxed{6} \\ + 2 \ 9 \ 4 \\ \hline 6 \ 5 \ 0 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 4. \quad 2 \ 7 \ \boxed{5} \\ + \boxed{1} \ 4 \ 3 \\ \hline 4 \ 1 \ 8 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 5. \quad 6 \ \boxed{9} \ \boxed{5} \\ + 1 \ 2 \ 3 \\ \hline 8 \ 1 \ 8 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 6. \quad 2 \ \boxed{1} \ \boxed{8} \\ + \boxed{4} \ 0 \ 7 \\ \hline 6 \ 2 \ 5 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 7. \quad \boxed{1} \ 7 \ 6 \\ + 1 \ \boxed{4} \ \boxed{2} \\ \hline 3 \ 1 \ 8 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 8. \quad \boxed{3} \ \boxed{4} \ 8 \\ + 1 \ 8 \ 1 \\ \hline 5 \ 2 \ 9 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 9. \quad \boxed{4} \ \boxed{2} \ \boxed{7} \\ + 3 \ 8 \ 3 \\ \hline 8 \ 1 \ 0 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 10. \quad \boxed{4} \ 3 \ \boxed{4} \\ + 1 \ 9 \ 3 \\ \hline 6 \ 2 \ 7 \end{array}$$


$$\begin{array}{r} 11. \quad \boxed{4} \ 2 \ \boxed{7} \\ + 4 \ \boxed{8} \ 2 \\ \hline 9 \ 0 \ 9 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 12. \quad 6 \ \boxed{0} \ 6 \\ + \boxed{1} \ 3 \ \boxed{5} \\ \hline 7 \ 4 \ 1 \end{array}$$



حل کریں۔

نیچے دیئے گئے سوالات حل کر کے اشکال کے مناسب خانوں میں اعداد لکھیں




افقی

1. پندرہ ہزار دو سو تیس

عمودی

2. 23512 میں 10 جمع کریں

3. 928 میں سے 4 منفی کریں



عمودی

1.

2. 389 میں سے 31 منفی کریں۔

3. 877 میں 11 جمع کریں۔


افقی

1. 55202 میں 126 جمع کریں۔

4. 13589 میں سے 41 منفی کریں۔

جوابات

نیچے دیئے گئے سوالات حل کر کے اشکال کے مناسب خانوں میں اعداد لکھیں




افقی

1. پندرہ ہزار دو سو تیس

عمودی

2. 23512 میں دس جمع کریں۔

3. 928 میں سے 4 منفی کریں۔



عمودی

1. 518

2. 389 میں 31 منفی کریں

3. 877 میں 11 جمع کریں

افقی

1. 55202 میں 126 جمع کریں

4. 13589 میں 41 منفی کریں

جمع اور منفی کا عمل کر کے جوابات ہدایات کے مطابق خانوں میں لکھیں۔

مفقی خانوں کے لئے یہ اعداد ہیں

$$\begin{array}{r} 1. \quad 964 \\ - 527 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 3. \quad 104 \\ + 203 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 5. \quad 587 \\ - 453 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 6. \quad 457 \\ - 218 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 8. \quad 129 \\ + 109 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 11. \quad 136 \\ + 127 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 12. \quad 543 \\ - 517 \\ \hline \end{array}$$

1.	4	3	7	2.	3.	4.
		5.				
6.	7.		8.	9.		
		10.				
	11.			12.		

عمودی خانوں کے لئے یہ اعداد ہیں۔

$$\begin{array}{r} 1. \quad 206 \\ + 206 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 2. \quad 950 \\ - 231 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 3. \quad 588 \\ - 246 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 4. \quad 214 \\ + 524 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 7. \quad 598 \\ - 236 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 9. \quad 117 \\ + 265 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 10. \quad 474 \\ - 461 \\ \hline \end{array}$$

کارڈ نمبر: 43

جوابات

جماعت سوم

جمع اور منفی کا عمل کر کے جوابات ہدایات کے مطابق خانوں میں لکھیں۔

مفقی خانوں کے لئے یہ اعداد ہیں

$$\begin{array}{r} 1. \quad 964 \\ - 527 \\ \hline 437 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 3. \quad 104 \\ + 203 \\ \hline 307 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 5. \quad 587 \\ - 453 \\ \hline 134 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 6. \quad 457 \\ - 218 \\ \hline 239 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 8. \quad 129 \\ + 109 \\ \hline 238 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 11. \quad 136 \\ + 127 \\ \hline 263 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 12. \quad 543 \\ - 517 \\ \hline 26 \end{array}$$

1.	4	3	7		3	0	7			
	1		5.	1	3	4	3			
6.	2	7.	3	9		8.	9.	2	3	8
				10.	1		8			
		11.	2	6	3		12.	2	6	

عمودی خانوں کے لئے یہ اعداد ہیں۔

$$\begin{array}{r} 1. \quad 206 \\ + 206 \\ \hline 412 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 2. \quad 950 \\ - 231 \\ \hline 719 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 3. \quad 588 \\ - 246 \\ \hline 342 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 4. \quad 214 \\ + 524 \\ \hline 738 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 7. \quad 598 \\ - 236 \\ \hline 738 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 9. \quad 117 \\ + 265 \\ \hline 382 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 10. \quad 474 \\ - 461 \\ \hline 13 \end{array}$$

جمع، منفی اور ضرب کریں۔

1)  $92 - 66$

2)  $9 \times 2$

3)

4)  $8 + 9$

5)  $3 \times 3$

6)  $2 \times 4 = \underline{\quad}$

7)  $3 + 5 + 7 = \underline{\quad}$

8)  $2 + 8 + 9 = \underline{\quad}$

9)  $3 \times 6$

10)  $24 + 16$

11)  $70 - 58 = \underline{\quad}$

12)  $4 \times 3$

13)  $20 - 8$

14)  $3 \times 8$

15)  $11 + 4$

16)  $3 \times 4$

17)  $6 \times 2 = \underline{\quad}$

18)  $5 \times 3$

19)  $8 + 0$

20)  $11 + 3 + 12$

21)  $2 \times 6$

22)  $41 - 29$

23)  $6 \times 3$

24)  $2 \times 2$

25)  $2 \times 5 = \underline{\quad}$

26)  $3 \times 7$

27)  $3 \times 3$

28)  $18 + 2$

29)  $36 - 30$

30)  $33 - 14 = \underline{\quad}$

31)  $7 \times 2 = \underline{\quad}$

32)  $2 \times 9$

جمع، منفی اور ضرب کریں۔

1  $\begin{array}{r} 92 \\ -66 \\ \hline 26 \end{array}$

2  $\begin{array}{r} 9 \\ \times 2 \\ \hline 18 \end{array}$

3  $2 \times 4 = \underline{8}$

4  $\begin{array}{r} 8 \\ +9 \\ \hline 17 \end{array}$

5  $\begin{array}{r} 3 \\ \times 3 \\ \hline 9 \end{array}$

6  $3 + 5 + 7 = \underline{15}$

7  $\begin{array}{r} 3 \\ +3 \\ \hline 6 \end{array}$

8  $2 + 8 + 9 = \underline{19}$

9  $\begin{array}{r} 3 \\ \times 6 \\ \hline 18 \end{array}$

10  $\begin{array}{r} 24 \\ +16 \\ \hline 40 \end{array}$

11  $70 - 58 = \underline{12}$

12  $\begin{array}{r} 4 \\ \times 3 \\ \hline 12 \end{array}$

13  $\begin{array}{r} 20 \\ -8 \\ \hline 12 \end{array}$

14  $3 \times 8 = \underline{24}$

15  $\begin{array}{r} 11 \\ +4 \\ \hline 15 \end{array}$

16  $\begin{array}{r} 3 \\ \times 4 \\ \hline 12 \end{array}$

17  $6 \times 2 = \underline{12}$

18  $\begin{array}{r} 5 \\ \times 3 \\ \hline 15 \end{array}$

19  $\begin{array}{r} 8 \\ +0 \\ \hline 8 \end{array}$

20  $\begin{array}{r} 11 \\ 3 \\ +12 \\ \hline 26 \end{array}$

21  $\begin{array}{r} 2 \\ \times 6 \\ \hline 12 \end{array}$

22  $\begin{array}{r} 41 \\ -29 \\ \hline 12 \end{array}$

23  $\begin{array}{r} 6 \\ \times 3 \\ \hline 18 \end{array}$

24  $\begin{array}{r} 8 \\ +0 \\ \hline 8 \end{array}$

25  $\begin{array}{r} 11 \\ 3 \\ +12 \\ \hline 26 \end{array}$

26  $\begin{array}{r} 2 \\ \times 6 \\ \hline 12 \end{array}$

27  $\begin{array}{r} 41 \\ -29 \\ \hline 12 \end{array}$

28  $\begin{array}{r} 18 \\ +2 \\ \hline 20 \end{array}$

29  $\begin{array}{r} 5 \\ \times 3 \\ \hline 15 \end{array}$

30  $2 \times 5 = \underline{10}$

31  $\begin{array}{r} 2 \\ \times 2 \\ \hline 4 \end{array}$

32  $\begin{array}{r} 36 \\ -30 \\ \hline 06 \end{array}$


33  $\begin{array}{r} 3 \\ \times 7 \\ \hline 21 \end{array}$

34  $\begin{array}{r} 3 \\ \times 3 \\ \hline 9 \end{array}$

35  $7 \times 2 = \underline{14}$

36  $33 - 14 = \underline{19}$

37  $\begin{array}{r} 2 \\ \times 9 \\ \hline 18 \end{array}$




0	<input type="checkbox"/>	=	_____
1	<input type="checkbox"/>	=	_____
2	<input type="checkbox"/>	=	_____
3	<input type="checkbox"/>	=	_____
4	<input type="checkbox"/>	=	_____
5	<input type="checkbox"/>	=	_____
6	<input type="checkbox"/>	=	_____
7	<input type="checkbox"/>	=	_____
8	<input type="checkbox"/>	=	_____
9	<input type="checkbox"/>	=	_____

- ① حاصل شدہ اعداد کو غور سے دیکھیں ان اعداد سے کس عدد کا پہاڑہ حاصل ہوتا ہے۔
- ② عدد 37 کو 3، 6، 9، 12، 15، 18 میں ضرب دے کر بتائیے کہ ان سے اعداد کے کون سے مختلف نمونے بنتے ہیں۔

کارڈ نمبر: 45

جوابات

جماعت سوم



$9 = 1 \times 9$	9	0 = $\frac{9}{9}$
$9 = 1 + 8 = 18 = 2 \times 9$	8	1 = $\frac{9}{9}$
$9 = 2 + 7 = 27 = 3 \times 9$	7	2 = $\frac{9}{9}$
$9 = 3 + 6 = 36 = 4 \times 9$	6	3 = $\frac{9}{9}$
$9 = 4 + 5 = 45 = 5 \times 9$	5	4 = $\frac{9}{9}$
$9 = 5 + 4 = 54 = 6 \times 9$	4	5 = $\frac{9}{9}$
$9 = 6 + 3 = 63 = 7 \times 9$	3	6 = $\frac{9}{9}$
$9 = 7 + 2 = 72 = 8 \times 9$	2	7 = $\frac{9}{9}$
$9 = 8 + 1 = 81 = 9 \times 9$	1	8 = $\frac{9}{9}$
$9 = 9 + 0 = 90 = 10 \times 9$	0	9 = $\frac{9}{9}$

① حاصل شدہ اعداد کو غور سے دیکھیں ان اعداد سے کس عدد کا پہاڑہ حاصل ہوتا ہے۔

② عدد 37 کو 3، 6، 9، 12، 15، 18 میں ضرب دے کر بتائیے کہ ان سے اعداد

کے کون سے مختلف نمونے بنتے ہیں۔

$\begin{array}{r} 37 \\ \times 18 \\ \hline 666 \end{array}$	$\begin{array}{r} 37 \\ \times 15 \\ \hline 555 \end{array}$	$\begin{array}{r} 37 \\ \times 12 \\ \hline 444 \end{array}$	$\begin{array}{r} 37 \\ \times 9 \\ \hline 333 \end{array}$	$\begin{array}{r} 37 \\ \times 6 \\ \hline 222 \end{array}$	$\begin{array}{r} 37 \\ \times 3 \\ \hline 111 \end{array}$
--	--	--	---	---	---



## حل کریں

نیچے دیئے گئے سوالات کو حل کریں۔ اولین، تین کی مناسبت سے جوابات کو ترتیب وار رکھ کر ایک جملہ بنا لیں۔  
 چھٹے عدد کے لئے = "ہوتے" سب سے چھوٹا عدد کیلئے = "ایک" سب سے بڑے عدد کیلئے = "ہیں"۔  
 دسے عدد کیلئے = "سال" تیسرے عدد کیلئے = "ہیں" چھوٹے عدد کیلئے = "گھنٹے" پانچویں عدد کیلئے = "مہینے"۔

① $8 \times 3 = \underline{\quad}$	② $3 \times 3 = \underline{\quad}$	
④ $9 \times 3 = \underline{\quad}$	③ $4 \times 3 = \underline{\quad}$	⑧ $3 \times 3 = \underline{\quad}$
⑤ $2 \times 3 = \underline{\quad}$	⑥ $8 \times 3 = \underline{\quad}$	⑦ $7 \times 3 = \underline{\quad}$
⑨ $5 \times 3 = \underline{\quad}$	⑩ $4 \times 3 = \underline{\quad}$	
⑪ $3 \times 3 = \underline{\quad}$	⑫ $6 \times 3 = \underline{\quad}$	

جوابات

نیچے دیئے گئے سوالات کو حل کریں۔ اور تین تین کی مناسبت سے جوابات کو ترتیب وار رکھ کر ایک جملہ بنا لیں۔  
 چھٹے عدد کے لئے "سوتے" سب سے چھوٹا عدد کیلئے "ایک" سب سے بڑے عدد کیلئے "ہیں"۔  
 دسکے عدد کیلئے "سال" تیسرے عدد کیلئے "ہیں" چھوٹے عدد کیلئے "کتنے" پانچویں عدد کیلئے "مہینے"۔

① $8 \times 3 = \underline{24}$		② $3 \times 3 = \underline{9}$	
③ $4 \times 3 = \underline{12}$			
④ $6 \times 3 = \underline{18}$	⑤ $2 \times 3 = \underline{6}$	⑥ $8 \times 3 = \underline{24}$	⑦ $7 \times 3 = \underline{21}$
⑧ $3 \times 3 = \underline{9}$			
⑨ $5 \times 3 = \underline{15}$			
⑩ $4 \times 3 = \underline{12}$			
⑪ $3 \times 3 = \underline{9}$		⑫ $6 \times 3 = \underline{18}$	

جملہ۔ ایک سال میں کتنے مہینے ہوتے ہیں۔؟  
 ترتیب وار اعداد 6 9 12 15 18 21 24

جمع و تفریق اور ضرب کے عوامل مل کر کے خالی جگہیں پر کریں۔

4
$3 \times$
$9 -$
$6 \times$
$2 +$
$9 -$
$2 \times$
$11 -$
$3 +$
$3 \times$

15
$7 -$
$4 \times$
$7 -$
$18 -$
$5 \times$
$17 +$
$43 -$
$3 \times$
$3 -$

7
$4 \times$
$17 +$
$27 -$
$9 -$
$3 \times$
$19 -$
$2 \times$
$10 -$
$4 \times$

جمع و تفریق اور ضرب کے عوامل کر کے خالی جگہیں پر کریں۔

4
$3 \times$
12
$9 -$
3
$6 \times$
18
$2 +$
20
$9 -$
11
$2 \times$
22
$11 -$
11
$3 +$
33
$3 \times$

99

15
$7 -$
8
$4 \times$
32
$7 -$
25
$18 -$
7
$5 \times$
35
$17 +$
52
$43 -$
9
$3 \times$
27
$3 -$

24

7
$4 \times$
28
$17 +$
45
$27 -$
18
$9 -$
9
$3 \times$
27
$19 -$
8
$2 \times$
16
$10 -$
6
$4 \times$

24

سوالات حل کر کے نیچے خانوں کو پُر کریں۔

1.  $\begin{array}{r} 3 \\ \times 4 \\ \hline \end{array}$

2.  $\begin{array}{r} 3 \\ \times 6 \\ \hline \end{array}$

3.  $\begin{array}{r} 3 \\ \times 1 \\ \hline \end{array}$

4.  $\begin{array}{r} 3 \\ \times 8 \\ \hline \end{array}$

5.  $\begin{array}{r} 3 \\ \times 2 \\ \hline \end{array}$

6.  $\begin{array}{r} 2 \\ \times 9 \\ \hline \end{array}$

7.  $6 \times 3 = \underline{\hspace{2cm}}$

8.  $8 \times 3 = \underline{\hspace{2cm}}$

9.  $3 \times 3 = \underline{\hspace{2cm}}$

10.  $1 \times 3 = \underline{\hspace{2cm}}$

11.  $5 \times 3 = \underline{\hspace{2cm}}$

12.  $2 \times 3 = \underline{\hspace{2cm}}$

13.  $7 \times 3 = \underline{\hspace{2cm}}$

14.  $4 \times 3 = \underline{\hspace{2cm}}$

15.  $9 \times 3 = \underline{\hspace{2cm}}$

16.  $\begin{array}{r} 3 \\ \times 5 \\ \hline \end{array}$

17.  $\begin{array}{r} 3 \\ \times 9 \\ \hline \end{array}$

18.  $\begin{array}{r} 2 \\ \times 6 \\ \hline \end{array}$

19.  $\begin{array}{r} 3 \\ \times 7 \\ \hline \end{array}$

20.  $\begin{array}{r} 3 \\ \times 3 \\ \hline \end{array}$

21.  $\begin{array}{r} 2 \\ \times 4 \\ \hline \end{array}$

افقی اعداد

1.  $4 \times 3 = \underline{\hspace{2cm}}$

3.  $5 \times 3 = \underline{\hspace{2cm}}$

4.  $6 \times 3 = \underline{\hspace{2cm}}$

5.  $9 \times 3 = \underline{\hspace{2cm}}$

6.  $3 \times 2 = \underline{\hspace{2cm}}$

عمودی اعداد

2.  $7 \times 3 = \underline{\hspace{2cm}}$

4.  $4 \times 3 = \underline{\hspace{2cm}}$

5.  $8 \times 3 = \underline{\hspace{2cm}}$

7.  $3 \times 3 = \underline{\hspace{2cm}}$

1	2			
	3			
			4	
5				
		6		7

کارڈ نمبر: 48

جوابات

جماعت سوم

سوالات حل کر کے نیچے خانوں کو پُر کریں۔

$$\begin{array}{r} 1. \quad 3 \\ \times 4 \\ \hline 12 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 2. \quad 3 \\ \times 6 \\ \hline 18 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 3. \quad 3 \\ \times 1 \\ \hline 3 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 4. \quad 3 \\ \times 8 \\ \hline 24 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 5. \quad 3 \\ \times 2 \\ \hline 6 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 6. \quad 2 \\ \times 9 \\ \hline 18 \end{array}$$

$$7. 6 \times 3 = \underline{18}$$

$$8. 8 \times 3 = \underline{24}$$

$$9. 3 \times 3 = \underline{9}$$

$$10. 1 \times 3 = \underline{3}$$

$$11. 5 \times 3 = \underline{15}$$

$$12. 2 \times 3 = \underline{6}$$

$$13. 7 \times 3 = \underline{21}$$

$$14. 4 \times 3 = \underline{12}$$

$$15. 9 \times 3 = \underline{27}$$

$$\begin{array}{r} 16. \quad 3 \\ \times 5 \\ \hline 15 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 17. \quad 3 \\ \times 9 \\ \hline 27 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 18. \quad 2 \\ \times 6 \\ \hline 12 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 19. \quad 3 \\ \times 7 \\ \hline 21 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 20. \quad 3 \\ \times 3 \\ \hline 9 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 21. \quad 2 \\ \times 4 \\ \hline 8 \end{array}$$

افقی اعداد

$$1. 4 \times 3 = \underline{12}$$

$$3. 5 \times 3 = \underline{15}$$

$$4. 6 \times 3 = \underline{18}$$

$$5. 9 \times 3 = \underline{27}$$

$$6. 3 \times 2 = \underline{6}$$

عمودی اعداد

$$2. 7 \times 3 = \underline{21}$$

$$4. 4 \times 3 = \underline{12}$$


$$5. 8 \times 3 = \underline{24}$$

$$7. 3 \times 3 = \underline{9}$$

1	2			
	3	5		
			4	8
5	7		2	
4		6		7

1 - دو دو کے جوڑے بنا کر ان کے گرد دائرہ لگائیں۔

2 - خالی جگہ پر لکھیں کہ آیا قطار میں چیزیں جفت ہیں یا طاق




\_\_\_\_\_




\_\_\_\_\_




\_\_\_\_\_



\_\_\_\_\_



\_\_\_\_\_




\_\_\_\_\_

1 - دو، دو کے جوڑے بنا کر ان کے گرد دائرہ لگائیں۔

2 - خالی جگہ پر لکھیں کہ آیا قطار میں چیزیں جفت ہیں یا طاق


جفت




طاق




جفت




طاق



جفت



طاق





## حل کریں

	45	
79		21
16	33	80

مندرجہ ذیل جملے پڑھ کر اوپر اعداد میں سے مناسب عدد چن کر جواب لکھیں۔

- (1) عدد جس کو جمع کرنے سے جواب 8 آتا ہے \_\_\_\_\_
- (2) جس کا اکائی کا ہندسہ 1 ہے \_\_\_\_\_
- (3) سب سے بڑا عدد \_\_\_\_\_
- (4) اکائی کا ہندسہ دہائی کے ہندسے سے ایک زیادہ ہے \_\_\_\_\_
- (5) عدد 10 سے زیادہ اور 20 سے کم ہے \_\_\_\_\_
- (6) دونوں ہندسوں کو آپس میں منفری کرنے سے 5 جواب آتا ہے۔ \_\_\_\_\_
- (7) دونوں ہندسے ایک جیسے نہیں \_\_\_\_\_
- (8) سب سے چھوٹا عدد \_\_\_\_\_
- (9) دونوں ہندسوں کو جمع کرنے سے جواب 6 آتا ہے۔ \_\_\_\_\_
- (10) دونوں ہندسوں کو جمع کرنے سے جواب 16 آتا ہے \_\_\_\_\_

جوابات

	45	
79		21
16	33	80

مندرجہ ذیل جملے پڑھ کر اوپر اٹھواد میں سے مناسب عدد چن کر جواب لکھیں۔

- (1)  $8 = 8 + 0 = 80$  عدد جس کو جمع کرنے سے جواب 8 آتا ہے
- (2) جس کا اکائی کا ہندسہ 1 ہے  $\frac{21}{1} = 21$  <sup>اکائی</sup> <sub>دہائی</sub>
- (3) سب سے بڑا عدد  $\frac{80}{}$
- (4) اکائی کا ہندسہ دہائی کے ہندسے سے ایک زیادہ ہے  $\frac{45}{5} = 45$  <sup>اکائی</sup> <sub>دہائی</sub>
- (5) عدد 10 سے زیادہ اور 20 سے کم ہے  $\frac{16}{}$
- (6) دونوں ہندسوں کو آپس میں منفی کرنے سے 5 جواب آتا ہے  $5 = 1 - 6$
- (7) دونوں ہندسے ایک جیسے نہیں  $\frac{33}{}$
- (8) سب سے چھوٹا عدد  $\frac{16}{}$
- (9) دونوں ہندسوں کو جمع کرنے سے جواب 6 آتا ہے  $6 = 3 + 3 = 33$
- (10) دونوں ہندسوں کو جمع کرنے سے جواب 16 آتا ہے  $16 = 7 + 9 = 79$